

النبي الخاتم صلی علیہ وسلم

مولانا مناظر احسن گیلانیؒ

مکتبہ انوار

دیگر نسخوں میں پائی جانے والی کثیر اغلاط سے پاک

النبی الخاتم

مولانا سید مناظر احسن گیلانی

تعارف

مولانا محمد منظور نعمانی

مکتبہ اخوت

نزد حسن مارکیٹ، بخش شریٹ پمپلی منڈی اردو بازار لاہور 723595

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب : النبی الخاتمؐ
مصنف : مولانا سید مناظر احسن گیلانی
ناشر : مکتبہ انھوت
نزد حسن مارکیٹ (مچھلی منڈی)
اردو بازار لاہور
فون: 7235951
مطبع : رضا پریس لاہور
قیمت : 80 روپے

عام : 150 روپے
اعلیٰ : 250 روپے

فہرست مضامین

39	ہجرت حبشہ	9	دیباچہ
40	نجاشی کے دربار میں جعفر طیار کی تقریر	10	مکی زندگی
42	ذات مبارک کے ساتھ ایذا رسانیوں کا آغاز		قرآن مجید اور سیرت محمدی کی تاریحیت
43	ابوطالب کو توڑنے کی کوشش	25	والدین کی وفات
44	شعب ابی طالب	25	عبدالطلب کی کفالت اور ان کی وفات
45	شعب ابی طالب کے مصائب کی قیمت واقعہ معراج	26	ابوطالب کی کفالت
46	واقعہ معراج کے متعلق چند ارشادات	26	دائی حلیمہ سعدیہ
49	حضرت ابوطالب اور خدیجہ کی وفات	27	ملکہ عرب
49	طائف کی زندگی	28	قریش اور قریش کی حالت
52	طائف سے واپسی	28	ایام طفولیت اور شغل گلہ بانی
54	جبرئیل امین کا ظہور طائف کی راہ میں	30	حجر اسد کا جھگڑا
58	جنوں سے ملاقات اور بیعت	30	نکاح
59	مدینہ والوں سے پہلی ملاقات	32	خلوت پسندی
60	انصار مدینہ کی پہلی ملاقات	35	ابتداء وحی
65	دارالندوہ کا آخری فیصلہ اور ہجرت	38	تعذیب صحابہؓ

79	غزوہ بدر	67	سفر ہجرت کا آغاز اور اس کے واقعات
80	عہد نبوت کے جہاد میں شہداء اور مقتولوں کی اٹھارہ سو تعداد	69	سفر ہجرت میں سراقہ سے گفتگو
83	بیرون عرب میں تبلیغ کا کام	72	مدنی زندگی
86	اسلامی جہاد کی ترتیب	73	بناء مسجد و صفہ
87	ازواج مطہرات	74	تحويل قبلہ کا راز
87	مدینہ میں دنیا کے مذاہب کا اکھاڑہ	75	مواخاۃ اور اس کا فائدہ
92	حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حیثیت	76	اذان کی ابتداء
97	ختم نبوت	77	تبلیغ عام کا آغاز
		77	مشکلات راہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تعارف

از جناب مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ

سیرت طیبہ نبویہ (علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیۃ) کے باب میں تصانیف اور مقالات کی اب کی نہیں اور اگر یہ کہا جائے تو بالکل مبالغہ نہ ہوگا کہ آج تک کسی علمی تاریخی یا ادبی موضوع پر اتنی کتابیں تصنیف نہیں کی گئی جتنی کہ ”سیرت محمدی“ اور اس کی متعلقات پر چھپ چکی ہیں اور اب تو یہ کیفیت ہے کہ کوئی مہینہ بلکہ غالباً کوئی ہفتہ اور کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں اس مقدس موضوع پر کوئی کتاب، کوئی رسالہ یا کوئی مقالہ کہیں سے اشاعت پذیر نہ ہوتا ہو اور ہونا بھی یہی تھا کیونکہ ”رفع ذکر“ ازل کی طے شدہ الہی تجویز ہے۔

لیکن اس شیوع اور اس بے انتہا کثرت کے باوجود ایسی کتابیں اس بے پایاں ذخیرہ میں گنتی کی چند ہی نکلیں گی جن میں سیرت نبوی کو ایسی جامعیت اور اکملیت کے ساتھ پیش کیا گیا جو اس کا طغرائے امتیاز ہے۔ بالخصوص اس سلسلہ کی چھوٹی اور متوسط کتابیں تو اس چیز سے اکثر خالی ہی ہیں اور فی الحقیقت یہ ہے بھی بہت مشکل کہ گنتی کے چند ورقوں میں ”نبی خاتم“ کی اس سیرت مقدسہ کو جو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اسوہ ہے جامعیت کے ساتھ پیش کیا جاسکے۔

لیکن الحمد للہ پیش نظر کتاب اس حیثیت سے انہی چند مستثنیات میں سے ہے۔ وہ اختصار کے باوجود ”سیرت نبویہ“ کے تمام قابل غور پہلوؤں پر حاوی ہے بلکہ جن پہلوؤں کو سطح میں دنیا نے قابل غور نہیں سمجھا اور اس لیے ہمیشہ ان پر سرسری طور سے گزرا گیا ان کو بھی اس کتاب میں ”قابل غور“ بنا کر پیش کیا گیا ہے جیسا کہ ان کا حق تھا اور بہت سے ان معلوم و مشہور واقعات سے جو ”حیات نبوی“ کے معمولی سوانح ہی کی حیثیت سے لوگوں کے ذہنوں

اور حافظوں میں محفوظ ہیں نہایت گہرے دور رس اور پھر بالکل صحیح نتائج نکالے ہیں بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ اس خصوص میں یہ چھوٹی سی کتاب بالکل عدیم العظیم ہے۔ جدید تحریک ”سیرت“ کے بانی جناب عبدالمجید صاحب قرشی ایڈیٹر اخبار ”ایمان“ (جنہوں نے مصر و شام و ہند کے مشاہیر سے درجنوں مقالے اور مضامین اس موضوع پر لکھوائے ہیں اور خود یہ کتاب ”النبی الخاتم“ بھی ابتداً انہی کی تحریک پر ایک مقالہ کی صورت میں لکھی گئی تھی) انہوں نے اس کے متعلق لکھا تھا اور بالکل صحیح لکھا تھا کہ

”سیرت کی لائبریری میں اس قسم کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔“

یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ یہ کتاب اگرچہ ”سیرت“ پر لکھی گئی ہے جو تاریخ ہی کا ایک شعبہ ہے، لیکن مصنف کا مقصد اس سے صرف ”سوانح نبویہ“ کی تدوین نہیں ہے اور اس لیے واقعات میں تاریخی ترتیب کا التزام نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ان کا صحیح نظر اس تبلیغ اور دعوت الی الحق ہے۔ انہوں نے حیات نبوی کے ہر حادثہ اور سانحہ کو صاحب سوانح صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا برہان اور آپ کے پیغام کا مصدق بنا کر پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے، مگر چونکہ کسی وجہ سے انتہائی ایجاز و اختصار ان کے پیش نظر ہے۔ اس لیے انہوں نے جا بجا تصریحات کا کام صرف اشارات و رموز سے لیا ہے اور جب کہ اس سے پہلے ایڈیشن میں عنوانات بھی نہ تھے تب تو غالباً عام ناظرین پورے طور پر ”مافیہ“ کو سمجھ بھی نہیں سکتے ہوں گے، لیکن اب آپ نے قریباً ہر پیرے پر عنوان قائم کر کے اپنے ”رموز و کنایات“ کی بڑی حد تک تشریح کر دی ہے اور ان عنوانات کی روشنی میں کتاب کو دیکھنے کے بعد اب حیرت ہوتی ہے کہ گنتی کے ان چند ورقوں میں اس بندہ خدا نے کیا کیا بھر دیا تھا اور کس طرح بھر دیا تھا؟

دریا بکوزہ کی مثال بہت مشہور ہے، لیکن شاید دنیا کی کسی اور کتاب پر وہ اس سے بہتر طور

سے صادق نہ ہو۔

میرا اندازہ ہے اور انشاء اللہ غلط نہیں، کہ اگر انہی مضامین کو عام نگارش کے طرز پر لکھا جاتا اور انہی دعاوی و دلائل کو عام استدلالی ترتیب سے مرتب کیا جاتا تو ایسی ایسی کم از کم چار پانچ جلدوں میں یہی مضامین مشکل سے سماتے، لیکن محترم مصنف کے مخصوص طرز تحریر نے ان تمام وسیع الذیل مباحث و مضامین کو اس چھوٹی سی کتاب میں سمیٹ دیا ہے جو یقیناً بڑا کمال ہے۔

ناظرین کو کتاب سے قریب کرنے کے لیے (جو اس تعارف کا مقصد ہے) کتاب اور اس کے مصنف کی ایک اور خصوصیت کا ذکر بھی ناگزیر ہے۔

علم و تحقیق کی وسعت یا گہرائی اور اپنی معلومات کو خوبصورتی کے ساتھ دلنشین طریقہ پر بیان کر دینا یا تحریر میں لے آنا یہ وہ کمالات ہیں جن میں بڑی حد تک کسب کو بھی دخل ہے لیکن ”عشق“ کی آگ اور دل کا ”سوز و گداز“ وہ دولت ہے جو صرف خدا کی دین پر موقوف ہے..... پھر جب وہ ”کمال“ اور یہ ”خدا داد دولت“ کہیں جمع ہو جائیں اور دونوں مل کر کسی ”صاحب محبوبیت کبریٰ“ کی تصویر تیار کریں تو جیسی کچھ تیار ہوگی ظاہر ہے۔

”النبی الخاتم“ کے محترم مصنف انہی خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں ”علم و تحقیق“ اور تقریر و تحریر کے کمال کے ساتھ اس ”وہی نعمت“ سے بھی حصہ وافر ملا ہے اور اس لیے اس کتاب میں غیر قصدی بلکہ شاید غیر شعوری طور پر کہیں کہیں ”حال“ کا رنگ بھی آ گیا ہے۔ جس نے ”علم و تحقیق“ کے ساتھ مل کر ایک خاص ”کیف“ پیدا کر دیا ہے اور جی چاہتا ہے کہ ان مقامات کو بار بار مزے لے لے کر پڑھا جائے۔ اگرچہ اس ”حال“ اور ”تحقیق“ کی آمیزش نے بعض جگہ تعقید بھی پیدا کر دی ہے، لیکن سرمستانہ جوش بیان کی لذت ان جگہوں پر بھی تعقید کی کلفت محسوس نہیں ہونے دیتی۔

یہاں تک پہنچ کر جی چاہتا ہے کہ اس کتاب اور اس کے ”صاحب نعت“ مصنف کے متعلق ایک خاص بشارت جو اب تک میرے سینے میں ”سرکنوں“ کی طرح محفوظ رہی اس کو بھی ظاہر کر دوں۔ اگر صاحب کتاب کو میری یہ جسارت اور یہ ”افشاء راز“ ناگوار ہو تو وہ مجھے معاف فرمادیں۔

مجھ سے ایک نہایت ثقہ بزرگ نے بیان کیا تھا کہ جن دنوں یہ کتاب (النبی الخاتم) تصنیف ہو رہی تھی۔ ایک صاحب دل بزرگ نے ایک رات عالم واقعہ میں دیکھا کہ حضرت خاتم النبیین، رحمۃ اللعالمین اپنے جمال کی پوری تابشوں کے ساتھ رونق افروز ہیں اور مولانا گیلانی قدموں میں تڑپ رہے ہیں، لیکن ان سے نظر بچائی جا رہی ہے۔ صاحب واقعہ بزرگ نے یہ دیکھ کر حضرت بلالؓ سے (جو وہیں موجود تھے) عرض کیا کہ اس بے چارے کو ایک نظر کیوں نہیں دیکھ لیا جاتا؟ حضرت بلال نے فرمایا:

”اس کو اگر دیکھ لیا گیا تو مر جائے گا۔“

میرے نزدیک یہ مقدس صحبت اور یہ تڑپ اس مبارک تالیف کی صورت مثالیہ اور اس مصنف کے پرسوز جذبات کی تصویر تھی۔

بریں مژدہ گر جاں فشانند رواست

ہزار عمر فدائے دے کہ من از شوق

بخاک و خون تیم و گوئی از برائے من است

آخر میں کتاب کے متعلق دو باتیں اور بھی عرض کرنی ہیں۔ اس کتاب میں مصنف نے آنحضرتؐ کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ مکی زندگی کو انہوں نے دل کی زندگی اور مدنی زندگی کو دماغ کی زندگی قرار دیا ہے۔ میرے علم میں یہ بالکل نئی مگر نہایت صحیح تقسیم ہے۔ فی الحقیقت نبوت کے بعد مکہ کی بارہ تیرہ سالہ زندگی میں جن کمالات کا ظہور ہوا۔ ان کا زیادہ تر تعلق ملکات قلبیہ ہی سے تھا اور مدنی زندگی میں جو امور مہمہ انجام پائے ان کے لیے دماغی صلاحیت و قابلیت اور فکر و تدبیر ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ جو حضرات اس کتاب کو صرف ایک نظر دیکھیں گے وہ شاید پورا استفادہ نہ کریں گے اور نہ اچھی طرح لطف اندوز ہو سکیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ گہری نظر سے اس کو ایک سے زیادہ مرتبہ دیکھا جائے۔ خود میں نے بھی اس کو دو مرتبہ بالاستیعاب اور بعض مقامات کو اس سے بھی زیادہ دفعہ دیکھا ہے اور ہر مرتبہ ”قد مکرر“ کا لطف اٹھایا ہے۔

والسلام

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

ماہ رحمت ربیع الاول (1358ھ)

دیباچہ

اگرچہ اس کتاب کا بلکہ مختصر سے ”رسالہ یا مقالہ“ کا تعلق ”سیرت طیبہ“ علی صاحبہا الف سلام و تحیۃ سے ہے، لیکن ارادۃً اس میں ”سیرت“ کے واقعات کو تاریخی ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کا اہتمام نہیں کیا گیا ہے، بلکہ بجائے ”واقعات“ کے صرف ”نتائج“ سے بحث ایک خاص نقطہ نظر کو پیش رکھ کر کی گئی ہے۔ ایسے حضرات جو سیرت کی کتابیں پڑھ چکے ہیں یا کسی ذریعہ سے ان کے مضامین سے واقف ہیں اور بحمد اللہ مسلمانوں میں ایسوں کی کمی نہیں، ان کے لیے تو کسی ہدایت کی ضرورت نہیں، مگر خدا نخواستہ کسی کو اگر اس کا موقع میسر نہ آیا ہو تو اردو زبان میں اس کا کافی ذخیرہ موجود ہے، خصوصاً پچھلے چند سالوں میں قاضی سلیمان مرحوم منصور پوری نے ”رحمۃ للعالمین“ چوہدری نواب علی صاحب نے تذکرۃ المصطفیٰ ”سیرۃ الرسول“ ڈاکٹر عبدالحکیم مرحوم نے ”النبی والاسلام“ اور آخر میں علامہ شبلی مرحوم اور ان کے جانشین برحق مولانا سید سلیمان ندوی نے ”سیرۃ النبی“ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اردو زبان کو ”مضامین سیرت طیبہ“ سے مالا مال کر دیا ہے، تا آنکہ دوسری اسلامی زبان کو بھی اردو کی اس جامع شگفتہ اور مستند کتاب کا ترجمہ کرنا پڑا۔

اس سلسلہ میں صاحب ایمان ”قرشی“ صاحب کی کوششوں کو بھی ایک امتیاز حاصل ہے اور یہ ”مقالہ“ بھی ان ہی کی فرمائش سے لکھا گیا۔ ان ہی بزرگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج اردو زبان میں سب سے زیادہ آسان تصنیف گویا ”سیرۃ نبویہ“ کی تدوین ہے۔ شاید ہی کوئی مہینہ ایسا گزرتا ہو جس میں اس موضوع پر بلند اور معمولی معیار پر ہر طرح کے رسائل اور کتابیں شائع نہ ہوتی ہوں۔ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان مخلصوں کی پاک نیت نے ملک کے مذاق پر کافی اور گہرا اثر پیدا کیا ہے۔

بہر حال میری غرض فقط اس قدر ہے کہ بجائے واقعات کے صرف نتائج پر مطلع ہونے کے لیے یہ رسالہ جو چوتھی بار شائع ہو رہا ہے انشاء اللہ تعالیٰ مسلمانوں اور شاید مسلمانوں کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا۔

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

سید مناظر احسن گیلانی

مکی زندگی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَسَلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِیْنَ

یوں آنے کو تو سب ہی آئے سب میں آئے سب جگہ آئے (سلام ہو ان پر) کہ بڑی کٹھن گھڑیوں میں آئے، لیکن کیا کیجیے ان میں جو بھی آیا جانے کے لیے آیا۔
 پر ایک اور صرف ایک جو آیا اور آنے ہی کے لیے آیا، وہی جو آنے کے بعد پھر کبھی نہیں ڈوبا، چمکا اور چمکتا ہی چلا جا رہا ہے۔ بڑھا اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، چڑھا اور چڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، سب جانتے ہیں اور سمجھوں کو جاننا چاہیے کہ جنہیں کتاب دی گئی اور جو نبوت کے ساتھ کھڑے کیے گئے، برگزیدوں کے اس پاک گروہ میں اس کا استحقاق صرف اسی کو ہے اور اس کے سوا کس کو ہو سکتا ہے جو پچھلوں میں بھی اس طرح ہے جس طرح پہلوں میں تھا۔ دور والے بھی اس کو ٹھیک اسی طرح پار ہے ہیں اور ہمیشہ پاتے رہیں گے جس طرح نزدیک والوں نے پایا تھا جو آج بھی اسی طرح پہچانا جاتا ہے اور ہمیشہ پہچانا جائے گا، جس طرح کل پہچانا گیا تھا کہ اسی کے اور صرف اسی کے دن کے لیے رات نہیں، ایک اسی کا چراغ ہے جس کی روشنی بے داغ ہے۔
 ورنہ جنہوں نے ناموں کو کھویا، کیا وہ اپنے ہادیوں کے کاموں کی نگہبانی کر سکتے تھے ہمارے ملک میں وید کی صورت میں اوتاروں کا کام پیش کیا جاتا ہے، لیکن لا پرواؤ! تم سے جب ان کے ناموں کا بھی بوجھ نہ اٹھایا گیا تو ہمیں کیا دکھاتے ہو کہ یہ ہے ان کے کاموں کا پتارہ۔
 تاریخ کے تحقیقی ہاتھوں نے ہندوستان کے رہنماؤں اور ان کی امتوں کے درمیان جو اندھیری کھائیاں کھودی ہیں اور مسلسل کھدتی چلی جا رہی ہیں، کیا اب آدمی کے بس میں ہے کہ ان کو پاٹے۔

کن پر اتری؟ کہاں اتری؟ کن کن زبانوں میں اتری؟ نظم میں اتری کہ نثر میں اتری؟ صدیوں میں اتری؟ جگہوں میں اتری؟ جب ان تمام بنیادی سوالات پر ایسے سوالات پر جن کی تحقیق کے بغیر کسی چیز کے ہونے نہ ہونے کا فیصلہ اٹکا ہوا ہے، تم خود جانتے ہو کہ ان پر اندھیرا چھایا ہوا ہے بتاؤ کہ شک کی ان دلدلوں میں یقین کا قدم کس طرح اٹھایا جائے گا۔ تم ان سے او جھل ہو وہ تم سے او جھل ہیں پھر کس راہ سے تم ان کو تاکو گے، جن کو تاک کر تم چلنا چاہتے ہو اور کس طرح وہ اپنے تئیں تمہیں دکھائیں جو اپنے کو دکھا کر تمہیں چلانا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بدھ اور بدھ مت والوں نے تم کو ان سے توڑا ہو حالانکہ سچ یہ ہے کہ بدھ سے بہت پہلے بھارت ورش اور اس کے بچے اپنے اوتاروں سے ٹوٹ چکے تھے لیکن اپنی غلطی دوسروں پر اڑھانے کے لیے اس کی تہمت بدھ ہی کے ذمہ جوڑی جائے، مگر سوال یہ ہے کہ جن کو بدھوں نے اپنے بزرگوں سے توڑا، کیا ٹھیک اسی کے توڑ پر انہوں نے بدھشٹوں کو بدھ کے قدموں پر چھوڑا؟

اور آج اگر ویدک دھرم کے حقیقی سرچشموں کا دنیا کو سراغ نہیں ملتا تو کیا مجسہ اسی طرح یقین کے ساتھ کوئی مہا تہا بدھ کے اصلی نوشتوں اور واقعی بچوں کا کہیں نشان دے سکتا ہے؟ ویدک دھرم اگر بالمیک کے قصوں اور مہا بھارت کے افسانوں پر قائم ہے تو اوہام کے جس مجموعے کا آج بدھ مت نام ہے، کیا تحقیق کی نگاہ میں اس کی قیمت بھی اختراعی کہانیوں سے زیادہ ہے؟ آج کس مورخ کے ذخیرہ میں ایسا تیل ہے جس کے چراغ کی روشنی میں کپل وستو کا منی اسی شان میں نظر آئے جیسا کہ وہ واقع میں تھا۔

۱ (انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا عنوان سنسکرت وید)

۲ (کپل وستو دامن ہمالیہ کے اس شہر کا نام ہے جہاں بدھ پیدا ہوا تھا اور اس کے باپ کا یہی شہر پایہ تخت بھی تھا قرآن مجید میں انبیاء صالحین کے ذکر میں ایک نام ذوالکفل کا بھی آیا ہے۔ مفسرین کا خیال ہے روح المعانی ص ۶۷ ج ۱ یعنی ذوالکفل کے نام میں مختلف اقوال ہیں اور ان میں کوئی بات صحیح نہیں ہے، کیا اس صورت میں اگر کفل کو کپل کا معرب ٹھہرا کر یہ کہا جائے کہ کپل والا ذوالکفل کے معنی ہیں، جیسا کہ بعض کا خیال ہے، تو روایتا اس کے رد کرنے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے مذہبی دنیا کا اتنا عظیم انقلابی وجود جیسا کہ بدھ تھا قرآن میں اگر اس کا ذکر ہو تو کیا تعجب ہے، خصوصاً اسلام سے اس کا جو تعلق ہے جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے۔

۳ (دیکھو "ہندوستانی تہذیب ازمنہ وسطیٰ میں" شائع کردہ ہندوستانی اکیڈمی الہ آباد بیان بدھ مت اور جین مت۔ دراصل اس کے لیے میری کتاب "الکتاب" کا انتظار کیجیے جس میں قرآن کی تاریخی استواری و وثاقت کا مقابلہ دیگر ادیان کی بنیادی کتابوں کی روایتی حیثیت سے کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کے پہلے جملہ ذلک الکتاب لا رب فیہ کی تفسیر ہے) ۱۲

اور آریں دھرم کی ہندی شاخ کی بربادی کا الزام تو بدھوں یا جینیوں کے سر تھوپا جاتا ہے لیکن ایران کی سرزمین میں وہ آگ کس نے لگائی جس میں زرتشت اور اس کے سارے کارنامے ہمیشہ کے لیے جل کر بھسم ہو گئے۔ آج جب بے چارے زرتشت کے وجود میں بھی شک پیدا کیا جاتا ہے اور مورخین کی اکثریت کو اس وجود کو فرضی اور وہمی ثابت کرنے پر اصرار ہے تو انصاف کرو کہ اس کے لائے ہوئے دین کا اب کون اقرار کر سکتا ہے؟

گاتھا کیا تھی؟ کہاں تھی؟ کس زبان میں تھی؟

ہے کوئی موبد جو پوچھنے والوں کی تسلی دوسروں کی شہادتوں سے نہیں اپنی خانگی گواہیوں سے کر سکتا ہو! گاتھا کے شروع و تراجم اوستا اور زنداوستا کا نام بلاشبہ باقی ہے لیکن اس کی اکیس سورتوں سے بجز ایک سورہ کے جس پر موجودہ آتشکدوں اور ان کے رسوم کی بنیاد ہے اگر غیروں میں نہیں تو کیا اس پر ایمان لانے والوں کے یہاں بھی کوئی سورۃ پائی جاتی ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا ہے جو جانے ہی کے لیے آئے تھے وہ آ کر جب چلے گئے تو اب ان کی تلاش میں لوگ کیوں سرگرداں ہیں؟

اب ان لکیر پیٹنے والوں سے کوئی ہوتا جو کہتا کہ سانپ نکل چکا ہے لکڑیاں ٹوٹیں ٹوٹی چلی جائیں گی ہاتھ شل ہوں گے اور ہوتے چلے جائیں گے لیکن سانپ نہیں مرے گا۔ مرگھٹوں پر نالہ کرنے والو! شہ زخموں پر واویلا مچانے والو! سن لو! جو جانے کے لیے یہاں آتا ہے چلے جانے کے بعد پھر یہاں واپس نہیں ہوتا۔ اس دنیا کی ریت یہی ہے پھر جو جا چکے ان پر تم کب تک روؤ گے؟ اور یہ حال تو ان کا ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہر پچھلے کے لیے پہلوں کے گانٹھے ہوئے منصوبے ان کے دین بن جاتے دھرم ان کے یہاں صرف اسی شخص کی بات ہے جو ان سے پہلے اس دنیا میں ہو یا اٹھارہویں صدی والوں نے جو خیالی پلاؤ پکایا انیسویں صدی والوں کے لیے یہی دینی غذا ہے بلکہ سچ یہ ہے کہ

۱۰ عیسوی میں دوسووں کا جو جال بنایا گیا ۲۰ عیسوی میں وہی نجات کی کشتی بن جاتی ہے اور یہ کیفیت ان کی ہے جن کے پاس اپنے بزرگوں کے نام کے سوا کام کا کوئی تنکا بھی باقی نہیں۔

۳ (دیکھو "فجر الاسلام" ڈاکٹر طحسین معری)

۵ (وخمہ ان کنوؤں کا نام ہے جن میں پارسی اپنے مردوں کو سلاخوں میں ٹیک لگا کر اس لیے کھڑا کر دیتے ہیں کہ گدھیں چیلیں انہیں نوح کرکھا میں) ۱۲

لیکن وہ جن کا دعویٰ مذہب کے میدان میں سب سے اونچا ہے، جنہوں نے اپنا نام ہی کتاب والا رکھا ہے، کیا واقعی جن کتابوں کا پشتا رہ اپنی بیٹھوں پر لادے وہ دنیا کے گوشہ گوشہ میں مارے مارے پھرتے ہیں، یہی یہودی اپنی کتابوں کی راہ سے ان موسیٰ علیہ السلام کو پاسکتے ہیں جن کی زندگی سے وہ اپنی زندگی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔

مصریوں کی غلامیوں میں صدیاں کاٹنے والے بنی اسرائیل کے آوارہ گرد صحرا نوردوں کو جب خدا کے پیغامبر موسیٰ علیہ السلام آسمانی تختیاں سونپ کر کے موآب کی سرزمین میں بحالت مسافرت آسودہ ہوئے، سب جانتے ہیں کہ ان میں اس وقت یعقوب کے گھرانے کے بارہ اسباط اور خانوادے شریک تھے، یہی بارہ اسباط تھے، جنہیں حضرت موسیٰ نے اپنی زندگی کا محافظ و نگران ٹھہرایا تھا، لیکن ان بارہ سبطوں میں سے دو ایک نہیں پورے دس اسباط کو جب نینوا کے نمرود شلمانصر اور اس کے بیٹے سرگون نے شامرون کے شہر سے نکالا۔

جو ذبح ہوئے، جو قتل ہوئے، جو جلانے گئے زن و مرد بچوں، بوڑھوں کی ان لاکھوں کی تعداد کو چھوڑ کر جن بے کسوں کو زنجیروں میں جکڑ کر سیوں میں باندھ کر سرگوں نے ایشیا کے شمالی و مشرقی کوہستانوں میں جنگلی جانوروں کی طرح کھدڑ دیا تو کیا دنیا نہیں جانتی کہ اسرائیل کی ان کھوئی ہوئی بھیڑوں نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ان کی کتاب کو دنیا کے کسی حصہ میں پھر کبھی بھولے سے بھی یاد کیا؟

ہوں گے، شامرون کے بن باسی اسرائیلی ہوں گے، دنیا کی ان ہی قوموں میں ہوں گے، جو ایشیا کے شمال مشرقی حصوں میں آباد ہیں، لیکن کیا ہندوستان کے برہمن اپنے اسرائیلی ہونے پر فخر کر سکتے ہیں؟ افغانستان کے باشندے یہودی ہونے کی گالی برداشت کر سکتے ہیں؟ سندھیوں اور بلوچستانیوں میں کوئی یہ یقین پیدا کر سکتا ہے کہ وہ شامرون ہی کے

۱ (بنی اسرائیل کے یہ دس اسباط کہاں گم ہو گئے، مورخین کا اس کے متعلق مختلف خیال ہے، عام رجحان یہی ہے کہ افغانستان اور سرحد کی پہاڑیوں میں رہنے والے شاید یہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بدھ مذہب اور اخیر میں اسلام قبول کیا۔ درہ خیبر کوہ سلیمان وغیرہ اس میں قرآن کے سوا ان کی شکل و صورت، عادات و اطوار سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے نیز توراہ کا کوئی حصہ بھی سرحدی قبائل میں کسی مورخ کو ملا تھا، خود بھی ان میں بعض اپنے آپ کو اسرائیلی کہتے ہیں، پشتو زبان کے الفاظ میں بھی اس کے قرآن ہیں، اسی طرح بعضوں کا خیال ہے کہ سندھ میں شامرونی تمدن کے آثار جو ملتے ہیں وہ شامرون کے ان ہی اسرائیلیوں کے ہیں، بعض لوگ راج پوتانہ کے مارواڑی ساہوکار اور ہندوستان سے برہمنوں کو اسرائیلی قرار دینا چاہتے ہیں) ۱۲۰ واللہ اعلم

یہودیوں کی نسل سے ہیں؟ مارواژ کے سودی کاروبار کرنے والے ساہوکاروں کو کوئی باور کرا سکتا ہے کہ ان کے اجداد فلسطین کے رہنے والے تھے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام سے پکھڑ گئے اور یہی ان کے لیے مقدر تھا۔ آخر بیکسوں کا یہ مرحوم قافلہ اپنے ساتھ اپنے ان فاقہ زدہ ڈھانچوں کے سوا اور کیا تھا؟ جن کے ساتھ ان کی جانیں انکی ہوئی تھیں یا لوہے کی وہ زنجیریں اور سن کی رسیاں جن میں جلڑے ہوئے اپنے گھروں سے نکالے گئے تھے۔

”موسوی شریعت“ ”موسوی سیرت“ کی حفاظت کی بڑی قوت اس طرح دنیا کی دوسری قوتوں میں کھپ گئی۔

اب دینی بیثاق کا سارا دار و مدار اسرائیل کے محض ان دو سبطوں کے بچے کھچے لوگوں پر رہ گیا جو فلسطین کے جنوبی علاقے میں آباد تھے اگرچہ عملاً موسیٰ علیہ السلام اور ان کی شریعت سے وہ بھی دور ہو چکے تھے لیکن اسما پھر بھی قریب تھے۔

پر جو جانے کے لیے آیا تھا اس کے جانے کی آخری گھنٹی بھی بجا دی گئی، آنے والے کی روانگی کا وقت آ گیا، آشوری برباد ہوئے، بابل آباد ہوا، اسی بابل کا مشہور نمرود بخت نصر آندھی کی طرح اٹھا، بادل کی طرح چڑھا اور صاعقہ بن کر گرا۔ اسرائیل کے ان دو پسماندہ سبطوں پر لے

فَجَاسُوا خِلَالَ النَّيَّارِ جس کی تفسیر میں یہودی اور غیر یہودی ہر قسم کے مورخین کا بیان ہے۔ ”پوری قوم بنی اسرائیل کو مع زن و فرزند گرفتار کرایا، خانہ خدا کی تمام چیزیں لوٹ لیں، سلیمان کی بنائی ہوئی مقدس عمارت کو کھود کر زمین کے برابر کر دیا، سارا شہر منہدم کر ڈالا، گرد کی فصیل گرا دی، ہر جگہ آگ لگا دی، ہر چیز جلا کے خاک کر ڈالی“ اور یہ ان کے شہر اور ملک کا حال ہوا خود موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب کے آخری نگرانوں پر کیا گزری؟

ساری قوم بنی اسرائیل کی گرفتار ہو کے بابل روانہ ہوئی، بخت نصر یہودیوں کے بادشاہ صدقیہ کو بھی اپنے ساتھ پکڑ کر لے گیا اور بابل میں پہنچنے کے بعد اس کے بیٹے اس کی آنکھوں کے سامنے طرح طرح کے عذابوں سے قتل کیے گئے اور یہ جگر پاش منظر دکھانے کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں پھوڑ ڈالی گئیں تاکہ پھر خوشی کی چیز نہ دیکھ سکے، کتاب مذکورہ ص ۶۱۔

۱ تاریخ یہود مولفہ شرر ص ۶۱

۲ (قرآن کی آیت ہے جس میں اسرائیلیوں کی جابی کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے ملک میں زور آور قوتیں گھس پڑیں) ص ۱۲۔

یہودیوں کا بادشاہ اندھا کیا گیا اور یہودی اگرچہ زندہ رکھے گئے لیکن کیسی زندگی؟
 ”سخت محنت اور جفاکشی میں رہتے اور اپنی حالت کو یاد کر کے روتے انہیں اپنی مذہبی
 رسموں کو بجالانے کی ممانعت نہ قربانی کر سکتے تھے نہ روزے رکھ سکتے تھے“ کتاب مذکور ص ۱۶۔
 عملاً وہ اس طرح موسوی شریعت کی رسوم سے بھی جدا کیے گئے اور یہودیوں کا جو کتابی
 سرمایہ تھا اس کے متعلق تاریخ کی یہ اتفاقی شہادت ہے۔

”توراة مقدس اور قدیم آسمانی صحف انبیاء کا کہیں پتہ نہ تھا اس لیے کہ بابل والوں کے
 طوفان بے تمیزی نے ان کی قدیم تاریخ اور اگلے اسرائیلی لٹریچر کے ساتھ ان مقدس کتابوں کو
 بھی فنا کر دیا تھا۔“ کتاب مذکورہ ص ۵۹۔

اسرائیل کے یہی دو سبط موسوی دین کا آخری سہارا تھے سو ٹوٹ کر پاش پاش ہو گیا۔
 یہ سچ ہے کہ غلامی کی اس رسوا زندگی اور اسیری کی ان ذلیل گھڑیوں سے اولاد یعقوب کو
 ایک مدت کے بعد نجات میسر آئی۔ اس وقت نجات میسر آئی جب اسیر ہونے والے زندگی کی
 قید سے آزاد ہو چکے تھے اور صرف ان کے دو بچے رہ گئے تھے جنہوں نے اس ملک میں
 آنکھیں کھولیں، جہاں ان کے مذہب کی تعلیم ممنوع تھی اور مذہبی رسوم کی بجا آوری جرم ٹھہرائی
 گئی تھی، لیکن اپنے ماں اور باپ کی نالہ و بکا کے شور میں ان کے کانوں تک آواز پہنچتی تھی کہ
 وہ بھی کسی دین کے وارث اور خدا کے پیغمبر کی ودیعت کے پاسبان ہیں۔

گر یہ دو اویلا کی ان آوازوں کا یہ اثر تھا کہ جب (سائرس) شاہ ایران نے نمرود و عراق
 کی حکومت کا تختہ الٹ کر اسرائیلیوں کو بھی آزادی بخشی تو ان کی بڑی جماعت ہانپتے ہانپتے
 راہ کے اس ڈھیر پر پہنچی جو سلیمان و داؤد کے شہر و ہیكل کے جلانے کے بعد یروشلم کے
 میدانوں میں پڑی ہوئی تھی، یہودیوں کے اس پہلے قافلے کے دن گویا رونے اور پچھتانے ہی
 کی نذر ہوئے تا ایں کہ وہ قافلہ بھی آ گیا جس میں دین کے غم خوار وہ اسرائیلی نوجوان عزرایا
 عزیر (علیہ السلام) بھی تھے ان کے یاد دلانے پر لوگوں کو موسیٰ کی اس کتاب کا خیال آیا جو نہ
 دنیا میں کاغذ کے اوراق پر موجود تھی اور نہ بابل کی زندانی زندگی میں پیدا ہونے والے
 یہودیوں کے دماغ میں اس کا کامل کیا بلکہ ناقص سا بھی کوئی ہلکا سا خاکہ موجود نہ تھا۔

الٹا گیا، خاکستر کا وہی تودہ الٹا گیا، کہا جاتا ہے کہ راکھ اور کوئلہ کے اسی ڈھیر کے نیچے کسی تہ خانہ کے اندر سے عزیر علیہ السلام کو توراہ کا وہ نسخہ ہاتھ آیا جس کی حفاظت اسرائیل کے دو اسباط اس طرح کرتے آ رہے تھے کہ یہودیوں کے گھروں میں نہیں بلکہ ہیکل میں صرف اس کا ایک نسخہ رہتا تھا جسے ساتویں سال یہود اس طرح سن لیا کرتے تھے جس طرح آج دنیا کے مسلمان ہر سال تراویح کی شکل میں ہر شہر اور ہر گاؤں میں قرآن کا سننا ضروری سمجھتے ہیں۔

راکھ کے نیچے کا یہی نسخہ تھا جو کسی نہ کسی طرح خدا کی قدرت سے جیسا کہ یہود کہتے ہیں آگ کے ان شعلوں سے محفوظ رہ گیا تھا جس نے سلیمان کی ہیکل کا تنکا تنکا جلا کر خاک کر دیا تھا جو بعد میں ان تمام نسخوں کی اصل قرار پایا جنہیں آئندہ یہودیوں نے اپنی نجات کا ذریعہ ٹھہرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچنے کی ساری راہیں جب قطعی طور پر بند ہو چکی تھیں، اس خاکستری نسخہ کا ایک سوراخ نکل آیا، جس سے جہاں تک ممکن تھا یہودی حضرت موسیٰ کو پھر دیکھ سکتے تھے، لیکن زمانہ نے اس سوراخ کو بھی زیادہ دن تک کھلا نہ رکھا اور ایک دفعہ نہیں بار بار ہر سو دو سو سال کے بعد کبھی یونان سے، کبھی روم سے ایسے جبار اٹھے جو رہ رہ کر اس سوراخ کو بند کر دیتے تھے اور یہودی کھود دیتے تھے۔ (انٹونیس) یونانی نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پھر توراہ کے نسخوں کو جلا کر دنیا سے ناپید کیا، ہیکل کو پھر زمین سے برابر کر کے اس کی جگہ جو پیٹر کا مندر بنایا لیکن باوجودیکہ انٹونیس کا یہ خونی حکم تھا کہ ”جس کے پاس توراہ کا ایک ورق بھی ملے وہ مارا جائے“ تاہم یہودی کہتے ہیں کہ مقامی یہودی بادشاہ کے زمانہ میں انہوں نے پھر اس کتاب کو زندہ کر لیا، انٹونیس کے بعد رومی قہرمان طیطس کا فتنہ آگ کی طرح اٹھا اس نے گیارہ لاکھ یہودوں کو قتل کیا ہیکل اس کے سپاہیوں کے ہاتھوں نذر آتش ہوا، توراہ پھر دنیا سے جل کر ناپید ہوئی، لیکن یہودی کہتے ہیں ”انہوں نے کسی نہ کسی ذریعہ سے اسے پھر پیدا کر لیا“ حالانکہ تورات بجز ہیکل یا شاہی خزانہ کے اور کہیں نہیں رہتی تھی۔ طیطس کے بعد روم کے قیصر ہڈرس نے پھر پانچ لاکھ یہودیوں کو ذبح کر کے ان کی کتاب کے ساتھ وہی کیا جو پہلوں نے کیا تھا۔ اس نے بھی جو پیٹر کا دیوتا اسی جگہ قائم کیا، جہاں کبھی سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی مسجد بنائی تھی۔ اس نے یروشلم کا نام بدل کر ایلیاہ رکھ دیا۔ آغاز اسلام تک بیت المقدس اسی نام سے موسوم تھا تا اس کے آنے والا آیا اور جس طرح اس نے دنیا کے پاکوں کی تقدیس کی، یہودیوں کے اس پاک شہر کا نام بھی بیت المقدس ہو گیا۔

ہوتا رہا، تباہیوں کا اور بربادیوں کا یہ سلسلہ یونہی جاری رہا، سمجھا جاسکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچنے کا یہ تنگ و تاریک سوراخ حوادث و واقعات کے طوفانوں میں کہاں تک کھلا رہ سکتا ہے اور اس پر یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ پھٹنے کے بعد بھی وہ اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے نہیں پھٹے۔ دنیا فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہودی جس آئینہ کو پیش کر رہے ہیں کیا اس میں واقعی حضرت موسیٰ اور ان کی پاک تعلیم کی وہ صورت نظر آ سکتی ہے جو واقعی ان کی صورت تھی؟ راکھ کے اس ڈھیڑے سے ”موسوی شریعت“ کا جو سانچہ تیار کیا گیا ہے، کیا سچ و سچ وہ حضرت موسیٰ کی تعلیم کا سچا قالب ہو سکتا ہے؟ سچائی کی پیاس ہی جن میں بجھ کر رہ گئی ہو، جن کو بجائے یقین کے شک ہی کے انگاروں پر لوٹنے میں ٹھنڈک میسر آتی ہو، ان سے بحث نہیں ہے لیکن جن میں صداقت کی تڑپ ہے جو واقعی ایمانی بشارت کی تلاش میں ہیں کیا شبہات و شکوک کے ان گھپ اندھیروں میں، وساوس و اوہام کے ایسے خطرناک گھنے جنگلوں میں اس لیے گھس سکتے ہیں کہ ان کو وہاں ابدی زندگی کا چشمہ نصیب ہوگا۔

کیسی عجیب بات ہے کہ تقریباً دو ہزار سال سے جس خاکستری توراہ کے بھی صرف ترجموں اور غلط سلط ترجموں در ترجموں کا دنیا میں رواج ہو۔ جس میں ایسے واقعات اور اسماء بکثرت پائے جاتے ہوں، جو قطعی طور پر حضرت موسیٰ کے بعد کے ہیں، اف! جس میں خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات، ان کی تجہیز و تکفین تک کی داستان درج ہو (استثناء باب ۳۴) کسی میں جھوٹ کو برداشت کرنے کی اتنی صلاحیت ہے کہ اس کو پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب قرار دے۔ ممکن ہے کہ مذہب میں منطق کو دخل نہ ہو، لیکن کیا اس حد تک کہ علانیہ جن کتابوں میں پیغمبروں پر شراب خوری یا حرام کاری کا الزام لگایا گیا۔ لوط جسے اولوالعزم نبی کو (العیاذ باللہ) اپنی بیٹیوں سے ملوث کیا گیا ہو، خداوند قدوس کے کلام کو ایسی محسوس گالیوں سے بھرا گیا ہو جن کو بازار کے غنڈے بھی اپنی زبانوں پر لاتے شرماتے ہوں، جس کتاب کا خدا پچھتاتا ہو، روتا ہو، کیا یہ اس رب قدوس کی کتاب ہو سکتی ہے جس کی تقدیس و تحمید کا ترانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کے رسولوں نے دنیا کو سنایا تھا؟

اس رومن کیتھولک پادری کے قلم سے گو مناظرہ کے جھونک ہی میں سہی، لیکن ایک پروٹسٹنٹ عیسائی کو مخاطب کرتے ہوئے کتنے صحیح الفاظ نکل آئے ہیں۔

اب میں کسی پروٹسٹنٹ سے پوچھتا ہوں کہ بھلا وہ اپنی نجات کی دلجمعی صرف ایک ایسی کتاب کے بھروسہ پر رکھ سکتا ہے جسے وہ کلام الہی نہیں ثابت کر سکتا، ایک کتاب جسے وہ سمجھ نہیں سکتا، ایک کتاب جسے جہلا وضعفاء اپنی ہلاکت کے لیے پڑھتے ہیں، ایک کتاب جس کے اکثر حصے کھوئے گئے ہیں، ایک کتاب جو از بس غلطیوں سے بھری گئی اور ناقص کی گئی ہے، جس میں نجات پانے کی سب ضروری چیزیں نہیں ہیں۔ ایسی کتاب کیا ایمان کا قاعدہ کلی اور نجات کی مکمل راہ ہو سکتی ہے؟ ”جو اپنی“ دینی شریعت“ کا سرچشمہ اس کتاب کو قرار دیتے ہیں جب ان کی یہ شہادت ہے تو کیوں نہ یقین کیا جائے کہ خدا کے یہاں سے جو کتاب جانے ہی کے لیے آئی تھی اس کے جانے کا وقت آ گیا تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بخت و اتفاق یا بے نظمی کے تحت نہیں بلکہ تقدیری نظام کی ماتحتی میں وہ آئی بھی اور اسی قانون کے زیر اثر وہ جہاں سے آئی تھی وہیں چلی گئی اور جس طرح اسرائیل کے دس اسباط کو پھڑنے کے بعد حضرت موسیٰ اور ان کی تعلیم سے ملنا نصیب نہ ہوا، تقریباً کچھ اسی طرح وہ دوا سباط بھی کھوئے گئے، اگرچہ اب تک اسی غلط فہمی میں ہیں کہ ہم پائے ہوئے ہیں۔

باقی رہی دنیا کی وہ مذہبی جماعت جس کے پیغمبر نے اگرچہ کل اپنی ڈھائی سال کی نبوت کے بعد ان سے کھلے لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ ”میرا جانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ آنے والا میرے جانے کے بغیر نہیں آئے گا۔“

اور یہ کہہ کر وہ جانے ہی کے لیے آیا تھا چلا گیا، پر عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں گیا، مگر جب پوچھا جاتا ہے کہ تم مسیح علیہ السلام اور ان کی زندگی کو کن راہوں سے پاتے ہو تو دیکھنے کا وہ وقت ہوتا ہے جب یہ ایک دوسرے کو تاکتے ہیں، گھورتے ہیں، کیا مسیح کی کوئی کتاب تمہارے پاس ہے؟ کیا اس کی کتاب کا کوئی ترجمہ تمہارے پاس ہے؟ حیرت کی خاموشی کے سوا ان مسکینوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، نامعلوم الاسم والحال شخصیتوں کے ہاتھوں کے کچھ میلادی مسودے ہیں، جن کی وقعت مسلمانوں کے ان عام میلادی رسالوں سے زیادہ نہیں، جنہیں سعیدی یا شہیدی وغیرہ ناموں سے دو دو تین تین آنے پیسے لے کر گشتی مولود خواں ہندوستان میں پڑھتے پھرتے ہیں۔ ان ہی رسالوں کا نام انجیل رکھا گیا ہے اسی

قسم کی ہزار ہا انجیلوں سے انتخاب کر کے ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ خدا کی کتاب مل گئی، نجات کی روشنی مل گئی۔

اور ان کتابوں کا انتخاب کس طرح ہوا، ہر عیسائی جانتا ہے کہ ^۹ نیقیہ کونسل والوں نے گر جا کے صدر مقام پر انجیلوں کے اس انبار کو تہہ برتہ کر کے رکھ دیا، کہا جاتا ہے کہ اس کے نیچے جبوں والے پادری سجدے میں گر کر آنکھیں بند کر کے یہ دعا کرتے رہے، دل ہی دل میں یہ منتر پڑھتے جاتے تھے۔

”جو جھوٹی ہے سو گر جائے“ کہتے ہیں کہ سب گر گئیں، صرف چار اور ان کے ساتھ پولوس کے کچھ خطوط بھی گرنے سے رہ گئے۔ سجدے سے سر اٹھا کر وہی سر پر رکھی گئیں۔

اس کے بعد ”مسیح علیہ السلام کی سچی انجیل یہی ہے۔“ اس آواز سے آسمان کو سر پر اٹھالیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کونسل کے ان پادریوں میں سے دو کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔

ان کی قبروں پر اس رپورٹ کی مسل رات کو رکھ دی گئی، صبح کو تو شیقی دستخط اس پر مثبت شدہ تھے، تصحیح و تعلیظ تنقید و تنقیح کے اس عجیب و غریب انوکھے طریقہ پر شاید دنیا نے نہ اس سے پہلے کبھی عمل کیا تھا نہ ان کے بعد کسی کو اس کی نوبت آئی۔

اسی فیصلہ سے یقین پیدا ہوا اور اسی یقین پر عیسائی جی رہے ہیں۔

ثُمَّ آفَ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ حالانکہ جیسا کہ مسیح علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ ”میرا جانا ہی تمہارے لیے مفید ہے۔“ اس پر عیسائی کان دھرتے اور جو جا چکا تھا اس کے ٹھہرنے رہنے پر اصرار نہ کرتے تو مسیح کے جانے کے بعد جو جانے کے لیے نہیں بلکہ آنے کے لیے آیا۔ اس کے پہچاننے میں انہیں کتنی آسانی ہوتی نہ میز سے انجیل گرانے کا منتر پڑھنا پڑتا نہ مردوں سے دستخط لینے کی ضرورت پیش آتی۔

۹ (مشرقی روم کا ایک شہر تھا جس کو انگریزی میں فیلیس کہتے ہیں ۳۲۵ء میں قسطنطین اعظم کے ایما سے اس شہر میں علماء نصاریٰ کی ایک مشہور کونسل ہوئی جس میں تین سو سے زیادہ بشب اور پریسٹرس شام و عراق سے لے کر جزائر برطانیہ تک شریک تھے۔ دو مہینے تک اس کے اجلاس بادشاہ کی صدارت میں ہوتے رہے اور اسی کونسل نے ”تین ایک ہے ایک تین ہے“ کے معنی کو مسیحی مذہب کا جزو اعظم بلکہ بنیاد ٹھہرایا)

۱۰ (افسوس ہے تم پر اور جن کو تم پوجتے ہو)

اور کیا صرف مسیح علیہ السلام نے آنے والے کے آنے کا دنیا کو منتظر بنایا تھا جو مسیح کے جانے کے ساتھ ہی آ گیا۔ اس پر کیا تعجب ہے کہ انہیں نے اتنا قریب سے اس کو دیکھ لیا اور سچ تو یہ ہے کہ ڈھائی سال کی اس نبوت کا مقصد اگر بجائے تعمیر کے عیسائی بھی اسی طرح آنے والے کی تبشیر اور **وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِمْ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ** قرار دیتے جیسا کہ قرآن نے قرار دیا ہے تو حضرت مسیح علیہ السلام کی جگہ وہ اسی کو ڈھونڈتے جس کے بتانے کے لیے مسیح علیہ السلام تشریف لاتے تھے۔

بہر حال مسیحؑ نے اگر یہ کہا تو یہی کہنے کے لیے وہ آئے تھے مگر جس طرح مغربی زمینوں کو درست کرنے والے نے اپنا فرض اس طرح ادا کیا دیکھو کہ اس سے پانچ سو برس پہلے مشرقی ممالک کو ایک مشرق بنانے والے نے بھی جس نے دھرم کا نرسنگھا ایران سے چین کی دیواروں تک پھونکا۔ سنو! چلتے ہوئے اس نے دنیا کو کیا وصیت کی! اگرچہ بہت کچھ مٹ چکا ہے لیکن مٹنے سے جو چیزیں بچ گئی ہیں اس میں مہا تما بدھ کا یہ آخری فقرہ اب تک زندہ ہے جس کو اپنی زندگی ختم کرتے ہوئے خدا کے اس بندے نے اپنے شاگرد نندا کے کان میں اس وقت ڈالا جب اس کی سانس اکھڑ رہی تھی اور اس کا مخلص خادم اس کے قدموں کو اپنے آنسوؤں سے یہ کہتے ہوئے دھو رہا تھا ”آقا آپ کے جانے کے بعد دنیا کو کون تعلیم دے گا۔“ بدھ نے اس کے جواب میں کہا ”ندا! میں پہلا بدھ نہیں ہوں جو زمین پر آیا نہ میں آخری بدھ ہوں اپنے وقت پر دنیا میں ایک اور بدھ آئے گا۔“

۱۱ (مژدہ سناتے ہوئے اس بات کا سچ نے کہ میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے جس کا نام ”احمد“ ہے قرآن کی اس مشہور آیت کا ترجمہ ہے جو سورہ صف کے پہلے رکوع کی آیت ہے۔ یہی لفظ ہے جس کا ترجمہ یونانی زبان میں ”فارقلیط“ ”پروکلوٹوس“ سے کیا گیا ہے جس کے ترجمہ میں ہر سال اصلاح کی جاتی ہے ”روح القدس“ ”تسلی دہندہ“ ”شفیع“ ”ویل“ ”روح حق“ اور خدا جانے کیا کیا لیکن محققین علماء نصاریٰ میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اس کا ترجمہ ”احمد“ ہی صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھو خطبات احمدیہ سرسید احمد خاں) ۱۲۔

۱۲ (واقعہ یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام سے ساڑھے چار سو برس پیشتر ہندوستان میں بدھ مت کے نام سے ایک تحریک اٹھی جس نے بتدریج متعدد متفرق مشرق (جاپان، چین، ہندوستان، ترکستان، تاتار، منگولیا وغیرہ) کو ایک مذہبی رشتہ میں جوڑ کر ایک مشرق بنا دیا۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی بدولت متعدد مغرب ایک مغرب بن گیا جب یہ ہو چکا تب وہ آیا جس نے مشرق و مغرب کے قصہ کو ختم کر کے دنیا کو ایک دنیا، ایک مذہب، ایک کتاب، ایک قبلہ والی دنیا بنا دیا۔ اسی لیے میں بدھ کو آنحضرتؐ کا مشرقی نقیب اور مسیح علیہ السلام کو غربی نقیب خیال کرتا ہوں) ۱۲۔

مقدس، منور القلب، عمل میں دانائی سے لبریز، مبارک، عالم کائنات، انسانوں کا عدیم
الظہیر سردار، جو غیر فانی حقائق میں ظاہر کرتا رہا ہوں، وہ بھی وہی ظاہر کرے گا، وہ ایک مکمل اور
خالص مذہبی نظام زندگی کی میری طرح تبلیغ کرے گا۔“

نندانے کہا ”ہم اس کو کس طرح پہچانیں گے۔“

آقا نے فرمایا ”وہ ”سمیتریا“ کے نام سے موسوم ہوگا۔“

۱۱۶ اکتوبر ۱۹۳۰ء کی اشاعت میں الہ آباد کے مشہور انگریزی اخبار لیڈر میں ایک بدھشت
کا یہ مضمون صفحہ سات کالم تین میں شائع ہوا تھا جس میں اسی ”سمیتریا“ لفظ کا ترجمہ نامہ نگار
مذکور نے لکھا ہے۔

”وہ جس کا نام رحمت ہے۔“

کیا اس کے بعد اس میں شک کرنے کی گنجائش ہے کہ رحمۃ للعالمینؐ کا مغربی
مقدمہ الجیش اور مبشر جاتے ہوئے اپنے جس فرض سے سبکدوش ہوا تھا، بجنہ اسی فرض کو اس
نے بھی خوبی کے ساتھ ادا کیا، جس کو خواہ دنیا کچھ ہی خیال کرتی ہو، لیکن واقعات بیان کرتے ہیں
کہ وہ بھی جہاں کے ابر رحمت کے لیے مشرق کی کھیتوں کا تیار کرنے والا تھا اور بلاشبہ چین، ایران،
بخارا، خراسان، ترک، تاتار، منگولیا، افغانستان، سرحد، بلوچستان، سندھ و ہندوستان کے بودھوں نے
رحمت کی اس بارش سے جتنا فائدہ اٹھایا دنیا کی کسی قوم نے نہیں اٹھایا، کاش ایسا ہوتا کہ مغربی
نقیب کے ماننے والے بھی بجائے تین کو ایک، ایک کو تین ثابت کرنے کے لایعنی جھگڑوں کے
بجائے اپنے ہادی کی اس آرزو کو پورا کرتے، جس کا پورا کرنا اس کے وجود کا سب سے بڑا مقصد
تھا (صلوة اللہ علیہم والسلام) اور قریب ہے کہ اپنی اس آرزو کو وہ ان سے پوری کرانے۔

اور کیا مشرق و مغرب کے ان دونوں نقیبوں ہی نے دنیا میں اس آنے والے کی آمد کا

گھنٹہ بجایا؟

جو^{۱۳} ”عہد کا رسول“ اور ”میشاق کا نبی“ تھا اس کے متعلق عہد کرنے والوں میں سے کس
نے عہد شکنی کی، یہ دونوں تو اس سے بہت زیادہ دور نہ تھے لیکن جو اس سے دور اور بہت دور

۱۳ (مناسب تھا کہ اس عنوان پر موجودہ بودھت تاریخ سے انتخاب کر کے کوئی صاحب مستقل کتاب تصنیف
کرتے اس کی شدید ضرورت ہے)

۱۴ (قرآن کے سو املا کی نبی کی کتاب میں آنحضرت کا یہ لقب بجنہ موجود ہے)

تھے انہوں نے بھی دنیا کے آگے کیا اس سے اپنا قرب نہیں جتلیا، سینا کی روشنی میں حضرت کلیم کو دکھایا گیا، دیکھ کر وہ چلائے۔

”خدا سینا سے نکلا، سعیر سے چمکا اور فاران ہی کے پہاڑوں سے جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ“ (پیدائش باب ۲۰۱)

دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے صدقہ میں ہزار ہا برس پہلے ان کو بھی دیکھ رہے تھے جنہوں نے صرف اس کو دیکھ کر ملائکہ کا رتبہ حاصل کیا، ایک دو کو نہیں دیکھا بلکہ ان کی دس ہزار کی تعداد کو دیکھا، ان کی قدوسیت کی شہادت الادا کی۔ داؤد علیہ السلام اس کے گھر کی تمنا میں بے چین ہو ہو کر اپنی بانسری سے یہ پُرسوز لے پیدا فرماتے تھے۔

”مبارک ہیں وہ تیرے گھر میں بستے ہیں، وہ سدا تیری حمد کرتے ہیں، وہ بکہ سے گزرتے ہوئے، ایک کنواں بناتے ہوئے۔“ (زبور باب ۱۸)

قرآن نے اگر مکہ ہی کا نام بکہ بتلایا تو تم کو اطمینان نہیں ہوا، لیکن جب قرآن کے مشہور دشمن مارگو لیو تھ نے بھی گواہی دی کہ زبور کا یہ بکہ عرب کے مکہ کے سوا اور کوئی جگہ ہے نہیں ہو سکتی تو منکر اب کیوں چپ ہیں، حالانکہ جس کے باپ نے بیابان میں اپنی بانسری بجائی تھی۔ اسی کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے اپنے شاہی تخت پر اس کے آگے سر بھی جھکایا تھا۔ اشاروں کنایوں میں نہیں علانیہ نام لے کر اپنے دل کی اس لگن کا اظہار ان لفظوں میں فرمایا۔

وہ خلو ”محمد زہ ودسی زہ رعی“ (تسبیحات سلیمان پ ۵: ۱۲)۔

”وہ ٹھیک محمد ہیں۔ وہ میرے محبوب ہیں، میری جان“ اور کیا اس کے لیے اس کے گھر کے لیے صرف حضرت داؤد سلیمان علیہ السلام ہی تڑپے!۔

”بیابان (عرب) اور اس کی بستیاں قیدار (بن اسماعیل) کے آباد گاؤں اپنی آواز بلند کریں گے، سلح کے باشندے ایک گیت گائیں گے، پہاڑیوں کی چوٹیوں سے للکاریں گے، وہ خداوند کا جلال ظاہر کریں گے۔“ (یسعیاہ نبی کی کتاب باب ۴۲)

۱۵ (فاران بکہ کی پہاڑیوں کا نام ہے۔ بائبل کے لٹریچر کے لحاظ سے یہ ایک بدیہی حقیقت ہے، تاہم حق پوشی کے لیے بجائے عرب کے اس کو دنیا کے دوسرے خطوں میں تلاش کرتے ہیں۔ خطبات احمدیہ میں سرسید مرحوم نے اس پر مفصل بحث کی ہے) ۱۲۔

۱۶ (بخاری میں ہے آنحضرت فتح کر کے جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ اس وقت دس ہزار اصحاب کرام تھے) ۱۶۔ (دیکھو سیرت شبلی مرحوم بحوالہ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا لفظ ”محمد“ (صلی اللہ علیہ وسلم) ۱۲)۔

سچ کو جھوٹ بنانے کے لیے تم پہاڑوں کو مٹا نہیں سکتے، مدینہ منورہ کے ہر بچے سے اب بھی پوچھ سکتے ہو کہ وہ اپنی بکریوں کے لیے گھاس کس پہاڑ کے دامن^{۱۸} سے لاتے تھے۔
جب آنے والا مکہ سے مدینہ آ رہا تھا اور جس کو حقوق نبی نے دیکھ کر صدیوں پہلے اس طرح خوشی کا نعرہ مارا:

”اللہ جنوب سے اور وہ جو قدوس ہے، کوہ فاران سے آیا اور اس کی شوکت سے آسمان چھپ گیا، زمین احمد کی حمد سے بھر گئی۔“ (کتاب نبی مذکور باب ۳)
اور یسعیاہ نبی اپنے جوش بیان میں اس کا غلغلہ اسی طرح بلند کر رہے تھے۔ ”عرب کے صحرا میں رات کاٹو گے، اے ودانیو کے قافلہ! پانی لے کر پیاسے کا استقبال کرنے آؤ، اے تہام کی سرزمین کے باشندو! روٹی لے کر بھاگنے والوں کو ملنے آؤ، کیونکہ وہ تلواروں کے سامنے سے، ننگی تلواروں، کچھی ہوئی کمان سے اور جنگ کی شدت سے بھاگے ہیں۔“ (یسعیاہ باب ۲۱)
کیا آنے والے کی اس آمد پر دامن سلح کے باشندے مدینہ والے طلح البذر علینا اور اسی قسم کے جن گیتوں سے پہاڑوں کی چوٹیوں پر للکار رہے تھے دنیا کی کسی قوم کے حافظہ میں اب وہ گیت محفوظ نہیں ہیں دیکھو! اسی للکاروں سے قیدار کی اولاد (قریش مکہ کی عظمت بدر کے کنوئیں میں غرق ہوئی) کیا ٹھیک تاریخ کی قید کے ساتھ وقوع سے پہلے اور سینکڑوں سال پہلے ہی یسعیاہ پیغمبر یہ کہتے ہوئے چلا نہیں رہے تھے۔

”ٹھیک ایک سال مزدوروں کے ایک سال میں قیدار کی ساری حشمت خاک میں مل جائے گی۔“
اور میں کیا بتاؤں کہ ان پیمان وفا باندھنے والوں نے کتنی قوت کے ساتھ اپنے اپنے وعدوں کا ایفاء کیا ہے، حالانکہ ان کا سب کچھ مٹا دیا گیا ہے، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ کس کی قوت نے ان خاص نوشتوں کو مٹنے سے بچا لیا، ملاکی نبی نے سچ فرمایا تھا۔

”وہ خداوند جس کی تلاش^{۱۹} میں تم ہو، ہاں! عہد کا رسول جس سے تم خوش ہو، وہ اپنی ہیمل میں ناگہاں آئے گا، دیکھو! وہ یقیناً آئے گا، رب الافواج فرماتا ہے! پر اس کے آنے کے دن میں کون ٹھہر سکے گا، اور جب وہ نمودار ہوگا کون کھڑا رہے گا۔“ (ملاکی نبی کی کتاب باب ۳)

۱۸ (اسلح ہی کے پاس اب تک خندق کے نشانات موجود ہیں اور یہ پہاڑ اسی نام سے اب تک مشہور ہے ۱۲)

۱۹ (قرآن کی آیت وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ الْخ میں صاف اعلان کیا گیا ہے کہ آنحضرت کے متعلق تمام پیغمبروں سے عہد لیا گیا اور اس عہد کا گواہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو بنا لیا ۱۲)

جس نے ہیکل میں وہ ناگہاں آیا، سب جانتے ہیں کہ کسی زمانہ میں اس کے مٹانے پر ایکا کر کے جو عہد نامہ کعبہ میں لٹکایا گیا تھا، اس میں بھی یہی پیش لگے آیا تھا جو ان عہد کرنے والوں کی کتابوں کے پیش آیا، اور کون ہے جو اس کے آگے کھڑا رہتا۔

”وہ سار کی آگ دھوبی کے صابون کی طرح ہے۔“ (ملا کی نبی باب ۳)

جو جلنے کے لیے تھا، وہ جل گیا۔ وہ جو دھلنے کے لیے تھا، وہ دھل گیا اور جو چمکنے اور صاف

ہونے کے لیے تھا، وہ چمکا اور ستھرا ہوا اور باوجود چھپانے کے اب تک چمک رہا ہے۔

خیر بات بہت دور جائے گی اگر اس ضمنی بحث کی تفصیل میں اور آگے بڑھا گیا۔ میرے

سامنے تو اس وقت صرف یہ تھا کہ جتنے آنے والے آئے، سب جانے کے لیے آئے اور

بینات کی واضح شہادت کی روشنی میں دیکھا جا چکا ہے کہ جو بھی آیا، بالآخر ایک ایک کر کے کسی

نہ کسی طرح خود وہ ان کی زندگی، ان کی تعلیم، جہاں سے طلوع ہوئی تھی وہیں بالآخر غروب ہو گئی

اور بلاشبہ ان کے لیے یہی مقدر تھا، قدرت کے باندھے قانونوں کو دنیا کا کون سا زور کھول سکتا

ہے۔ پر اب دیکھو کہ وہ آتا ہے جو آنے ہی کے لیے آیا کس شان کے ساتھ آیا، کس آن

کے ساتھ آیا، مصریوں کی غلامی میں صدیاں بسر کرنے والوں میں نہیں، بلکہ جب سے دنیا ہے

آدم کے جن گھرانوں کو محکومیت کی لعنت نے کبھی نہیں چھوا۔ جن کے دماغ میں آزادی کی ہوا

کے سوا کبھی کسی قسم کی غلامی کی گندگی نہیں پہنچی اور جیسا ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ

”وہ عربی ہوگا، اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کا ہاتھ اس کے خلاف ہوگا۔“

(پیدائش باب ۱۶-۲۳)

اور اسی لیے وہ اپنی آزادی کو ہر چیز سے مہنگی خیال کرتے ہوئے ”وہ اپنے سب بھائیوں

کے درمیان بود و باش کرے گا۔“ (باب مذکور)

بلاشبہ آدم کی ساری اولاد کے درمیان شاید یہی ایک نسل تھی، جس نے اپنے ہاتھ کو سب

کے خلاف اور سب کے ہاتھ کو اپنے خلاف رکھ کر ہمیشہ ایسی زندگی بسر کی جو دنیا کے کسی خطہ

۲۰ (آنحضرت فتح مکہ کے موقع پر اس طرح اچانک مکہ پہنچے ہیں کہ صحابہ کی دس ہزار فوج جب مکہ کے سواد میں

پہنچی اور رات کو کھانا پکانے کے لیے چولہے روشن کیے گئے تب ابوسفیان اور مکہ والوں کو علم ہوا کہ آپ آ گئے ۱۲)

۲۱ قریش نے ایکا کر کے رسول اللہ پر کھانا پانی بند کیا تھا، اس پر جو باہمی معاہدہ ہوا تھا کعبہ میں لٹکایا گیا لیکن

دیکھ تمام ظالمانہ باتوں کو حیاٹ گئی ۱۲)

کے باشندوں کو میسر نہ ہوئی ہو وہ ان ہی آزادوں میں اٹھا اور محسوس قوتوں میں جن چیزوں کا نام قوت رکھا گیا ہے۔ ایک ایک کے بچے سے انسانیت کو آزادی دلانے کے دعوے کے ساتھ اٹھا۔ دنیا والے ساری دنیا والے بلکہ حد تو یہ تھی کہ اس آزاد دنیا والے بھی انسانوں کے آگے تو نہیں، لیکن سچے قوت سے ٹوٹ کر جھوٹی اور وہی قوتوں کے وہی بوجھ کے نیچے شاید تین ۲۲ ساڑھے تین سو سال سے دبے ہوئے تھے اور کتنے ہیں جو اب تک دبے ہوئے ہیں وہ ان تمام کاذب قوتوں کو جھٹلاتا ہوا اٹھا۔

والدین کی وفات:

پھر دیکھو! جس کا باپ مرجاتا ہے تو جھوٹی قوتوں کے ماننے والے گھبرا گھبرا کر چلاتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں کہ اس بچے کو کون پالے گا؟ بے زوری کو زور کہنے والوں کا زور توڑنے کے لیے خود اس کے ساتھ یہ دیکھا گیا کہ پیدا ہونے کے بعد نہیں بلکہ اس سے پہلے کہ وہ آئے، اس میدان میں آئے، جہاں جھوٹی قوتوں سے آزادی کا پرچم کھولا جائے گا وہ دھوکے کی اس قوت سے آزاد ہو گیا، جس کا نام دنیا نے باپ رکھا ہے اور ٹھیک جس طرح ظہور سے پہلے اس کی ہستی نے اس آزادی کی شہادت ادا کی، نمود کے ساتھ ہی چند ہی دنوں کے بعد اس غلط بھروسے کا تکیہ بھی اس کے سر کے نیچے سے کھینچ لیا گیا، جس کو ہم سب مان کہتے ہیں۔

عبدالمطلب کی کفالت اور ان کی وفات:

جو اپنی جوانی کی قوتوں کو کھو کر بڑھاپے کی ہلی ہوئی دیوار کے سہارے زندگی کی نمائش ختم کر رہا تھا، اس پیرانہ سری کے ساتھ آپ کے جدا مجد نے چاہا تھا کہ سچی آزادی کی واشگاف ہونے والی حقیقت میں کچھ اپنی شرکت سے اشتباہ ڈال دیں، لیکن جو اپنے دعویٰ کی خود دلیل تھا۔ اس کی دلیل کمزور ہو جاتی اگر عین وقت پر عبدالمطلب کی سرپرستی کے فریب کا پردہ چاک نہ کر دیا جاتا، آخر وہ بھی چاک کر دیا گیا۔

۲۲ (سرزمین عرب جس کے مختلف حصوں میں حضرت اسماعیل کی اولاد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل پھیلی ہوئی تھی، اندازہ کیا گیا کہ آنحضرت کی ولادت سے کل تین ساڑھے تین سو سال پہلے سے بت پرستی میں اس ملک کے لوگ جتلا ہو گئے تھے ورنہ اس سے پیشتر عموماً ابراہیمی دین عربی قبائل میں پھیلا ہوا تھا دیکھو "الفوز الکبیر" شاہ ولی اللہ دہلوی) ۱۲۔

ابوطالب کی کفالت:

حقیقت جتنے بین اور شاندار چہرے کے ساتھ اب اس بے مادر پدر اور لاوارث یتیم کی پیشانی سے چمک رہی تھی وہ نہ چمکتی، اگر کہیں بجائے بے مایہ و بے بضاعت عم محترم حضرت ابوطالب کے خدا نخواستہ آپ کی نگرانی مکہ کے ساہوکار عبدالعزیز المشہور بہ ابی لہب کے سپرد ہوتی لیکن شیر کے بچے لومڑی کے بھٹوں میں نہیں پالے جاتے۔ جس قطرہ کی قسمت میں موتی ہونا ہے وہ گھونگھوں اور مینڈکوں کے منہ میں نہیں گرتا۔

غریب ابوطالب کی کفالت سے اس کے برہانی وجود میں کیا ضعف پیدا ہوتا، جس کے متعلق شاید بہتوں کو علم نہیں ہے کہ مدتوں ان کی یعنی ابوطالب کی گزران ان ۳۳ قراریط پر ہی تھی جو بکریوں اور اونٹوں کے چرانے کے صلہ میں ان کا یتیم بھتیجا مکہ والوں سے مزدوری میں پاتا تھا، کیسی عجیب بات ہے جو اپنے حقیقی بچوں کی پرورش کا بوجھ بھی اپنے سر پر نہیں اٹھا سکتے تھے اور اسی لیے مجبوراً ۳۳ جعفر عباس کی اور علی رضی اللہ عنہم اس کی گود میں ڈال دیئے گئے۔ جن کی گود میں وہ پلنے کے لیے پیدا ہوئے تھے تو پھر یہ کیسا بے بنیاد وہم ہے کہ جس کو خود قدرت کا ہاتھ براہ راست پال رہا تھا اس کی پرورش کی تہمت اس کے سر جوڑی جاتی ہے جس کی اگر سمجھا جائے تو شاید عمر کا ایک پیشتر حصہ اسی کے بل بوتے پر گزرا، جو ان کا پروردہ سمجھا جاتا ہے۔

دانی حلیمہ سعدیہ:

فہموں کی قلابازیاں اس مسئلہ میں بھی تقریباً اسی قسم کی ہیں جو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے متعلق سمجھ کے پھیر سے بلاوجہ پیدا ہوئیں۔

آپ کو حلیمہ سعدیہ سے دودھ ملا، حلیمہ یا حلیمہ کی اونٹنی، حلیمہ کی بکریوں، حلیمہ کے شوہر، حلیمہ کے بچوں، بلکہ آخر میں قبیلہ والوں تک کو ان سب کو دودھ آپ ہی کے ذریعہ سے ملا؟ اس میں واقعہ کیا ہے اس کو سب جانتے ہیں، لیکن نہیں جانتے یا نہیں جاننا چاہتے۔

۳۳ (خاص وزن کے معمولی سکوں کو کہتے ہیں)

۳۴ (حضرت ابوطالب نے معاشی مشکلات سے تنگ آ کر بالاخر اپنے ایک بیٹے جعفر طیار کو اپنے بھائی عباس کے حوالہ پرورش کے لیے کر دیا تھا، اسی طرح دوسرے بیٹے حضرت علی کرم اللہ وجہہ آنحضرت کے سپرد کر دیئے گئے تھے ماسوا اس کے تقریباً سیرت و تاریخ کی عام کتابوں میں حضرت ابوطالب کی جو معاشی تنگ حالی کی داستان موجود تھی اگر ایسا نہ ہوتا تو آٹھ نو سال کا ان کا یتیم بھتیجا بکریوں کے چرانے میں کیوں مجبور ہوتا ۱۲)

ملک عرب:

کہتے ہیں کہ اپنی ماما سے آدمی آزاد ہو سکتا ہے، لیکن دھرتی ماما کی غلامی کس کی گردن میں نہیں کہ آدمی کے بچوں کو جو کچھ ملتا ہے زمین کی چھاتی سے ملتا ہے، وہ جو کچھ کھاتا ہے جو کچھ پیتا ہے، جو کچھ پہنتا ہے، جس میں رہتا ہے، حتیٰ کہ جس میں بالآخر دفن ہوتا ہے، زمین اور زمین زادو کے سوا کوئی اور چیز ہے؟ اس جھوٹ میں سچ کا کتنا حصہ ہے۔ اس کے لیے دیکھو کہ اس واقعی آزادی کی راہ درست کرنے کے لیے وہ اس سرزمین سے اٹھایا جاتا ہے جو ایسی ہر چیز کے پیدا کرنے میں عقیم اور بانجھ ہے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آدمی ان ہی پر جی رہا ہے۔ جن چیزوں سے زندگی پیدا ہوتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ ان کی پیدائش کا اس زمین میں امکان نہیں اور جن سے موت کی پیداوار ہوتی ہے شاید دنیا کا یہ علاقہ اسی کا جہان ہے، اسی کا مکان ہے۔ تھلسانے والی لوت پتی ہوئی ریگ، جلے ہوئے گرم پہاڑ، یہ اور اسی قسم کی چیزوں پر اس غیر ذی زرع وادی کی بنیاد ہے اور ان ہی تباہیوں سے یہ بن کھیتی کا بیابان آباد ہے۔

جو باطل پروردگاروں کی بندگی سے مسجود ملائکہ کی ذریت کو رستگاری بخشنے آیا تھا، اس کے دعویٰ کا تجربی ثبوت اس شکل میں کس درجہ بے نقاب ہو کر سامنے آیا۔ جب وہ اسی سرزمین سے سر اٹھا کر دنیا کو دعوت دیتا ہے۔ کیا اس کے دعویٰ میں زور اس سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ کشمیر کی گلریز کیاریوں، سوئزر لینڈ کی نزہت انگیز وادیوں، شام کے فواکہ خیز باغوں سے عالم کو پکارتا کہ

جو نظر آتے ہیں نہیں اپنے

جو ہے اپنا نظر نہیں آتا

(حضرت امجد)

ان ملکوں میں جو کچھ نظر آتا ہے ان سرابی مغالطوں کے چکروں میں گھوم کر کتنے پیاسے پیاس ہی کی حالت میں یہ بڑبڑاتے ہوئے ہمیشہ کے لیے تیشین ہو گئے کہ جو ان کی ایک انچی آنکھوں میں نہیں ہے، وہ واقع بھی نہیں ہے حالانکہ اگر محسوسات کی نظر فریبیوں کے پھندوں سے ان کی عقل کی گردنیں آزاد ہوتیں تو وہ اسے اپنی آنکھوں میں بھی اسی طرح پاتے، جس طرح وہ ان کے باہر پایا جاتا ہے، بہر حال جس دلش میں کچھ نہیں تھا۔ جب اس نے خود اپنی

ذات سے اس کی گواہی ادا کی کہ وہاں بھی وہ سب کچھ مل جاتا ہے، جو ان دسیوں میں کسی کو نہیں ملا اور نہ کبھی مل سکتا ہے۔ جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہاں کیا کچھ نہیں ہے؟ کیا اس عینی شہادت کے بعد بھی کوئی کسی دیس کے بندھو یا کسی وطن کے عبد ہونے کا دھوکا کھا سکتا ہے۔

قریش اور قریش کی حالت:

اور جس طرح اس نے خاک اور دھول کے بوجھ سے انسانیت کے سر کو ہلکا کیا، کیا دعویٰ پیش کرنے سے پہلے قدرت نے خود اس کو اس کے مبارک وجود کو اس کی دلیل نہیں بنایا کہ قوم اور نیشن کے دیوتاؤں کے آگے بھجن گانے والے اس کے قدموں پر اس لیے اپنی اور اپنے بچوں کی خون کی یہ سمجھ کر بھینٹ چڑھانے والے کہ قوم کے وجود میں افراد کی ضمانت مستور ہے یہ لوگ قومی اور انفرادی بقاء ہی نہیں بلکہ سرے سے بقاء ہی کے راز سے جاہل ہیں۔

دیکھو! جس طرح وہ ایسے ملک میں پیدا ہوا تھا جس میں کچھ نہیں تھا، اسی طرح یہ قدرت ہی کی طرف کی بات تھی کہ جس قوم میں وہ پیدا ہوا اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، وہ اس کا دماغ، اس کا دل، اس کی طبیعت، اپنی قوم سے کیا لیتی جب کہ خود ان ہی کے پاس کچھ نہ تھا، اور اگر کچھ تھا بھی تو جو باہر کا حال تھا وہی ان کے اندر کی بھی کیفیت تھی، بلکہ شاید ان کے دل ان کے پہاڑوں سے زیادہ سخت، ان کے دماغ ان کے میدانوں سے زیادہ چھٹیل تھے۔ ان میں ان کی صحبتوں میں رہنے والوں کے اندر سنوار سے زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا تھا۔ ابھرنے سے زیادہ ان میں پلنے والے ٹھٹھرتے تھے۔

تاہم وہ آدمی ہی تھے اور مکہ بادیہ نہیں ایک شہر تھا، مانا کہ اس میں مدرسہ نہ تھا، کالج نہ تھا، یونیورسٹی نہ تھی، سوسائٹی نہ تھی، کلب نہ تھا۔ لان نہ تھا، صنعتی کارخانے نہ تھے، علمی معہد، کوئی باضابطہ سیاسی ادارہ نہ تھا، لیکن پھر بھی وہ شہر تھا اس میں شہریت کے کچھ لوازم تھے۔ ایک معبد تھا، جس کی زیارت کے لیے اطراف و اکناف کے مسافر وہاں آتے تھے، شمالی و جنوبی کاروانی راستوں کی شاہرہ پر وہ واقع تھا۔

ایام طفولیت اور شعل گلہ بانی:

شک کی اس ٹٹی کو بھی توڑنے کے لیے غالباً یہ غیبی سامان تھا کہ جب تک ان سے جدا آپ کچھ لے سکتے تھے، اس عمر تک خانگی حالات کی مجبوریوں نے شہر اور شہریت سے جدا کر

کے آپ کو جنگل پہنچا دیا، بجائے آدمیوں کے چراگاہ کے چرندے آپ کے ساتھی ٹھہرائے گئے، مشعلہ تجارت میں مشغول ہونے سے پہلے تقریباً بائیس تیس سال کی عمر تک آپ کے اوقات کا یہی نظام تھا کہ صبح ہوئی گھر گھر سے بکریوں کے مندوں، اونٹوں کے گلوں کو ساتھ لیے بہت دور صحرا میں چلے جاتے، شام ہوئی سب کے گھروں کے مویشی پہنچا دیئے گئے، گھر پہنچے جو کچھ دیا گیا کھا لیا اور تھکے ہوئے گلہ بانوں کی طرح بنی نوع انسان کا یہ سب سے بڑا گلہ بان سو جاتا تھا، شہر میں کیا ہوتا ہے، کون ہوتا ہے، کون جاتا ہے، شاید ہی اس کی خبر کبھی ملتی ہو۔ اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ گلہ بانی کی اس پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ جیسا کہ عمر کا تقاضا ہے کسی بارات کے تماشا دیکھنے کا خیال پیدا ہوا۔ شاید اس شوق میں چراگاہ سے سویرے واپس آ گئے، شام ہوئی، ضروریات سے فارغ ہو کر صاحب تقریب کے مکان پر پہنچے، بارات کی دھوم دھام ابھی شروع بھی نہیں ہوئی کہ چراگاہ تک واد کی ماند نے تمھکیاں دے کر سلایا۔ آنکھ کھلی تو تماشے ختم ہو چکے تھے اور مشرق کا رقص افق عالم پر ناچنا ہوا اپنا تماشا پیش کر رہا تھا، دھوپ نکل چکی تھی۔

یہ حال تو اس وقت کا ہے، جب اپنی قوم سے آپ کچھ لے سکتے تھے، لیکن جب قدرت نے اس کو جس کے دماغ نے جس کے قلب نے، جس کی عقل نے، جس کی طبیعت نے، محسوس قوتوں میں سے کسی سے قطعاً کچھ نہیں لیا تھا، اسی کو ساری دنیا میں ان سب چیزوں کو بانٹنے پر مامور کیا، جو آج تک کسی کو کسی سے نہ ملا تھا اور نہ آئندہ مل سکتا ہے جیسا کہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا۔

”میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ میں تمہیں کہوں پر تم برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ

فارقلیط (احمد) آئے گا تو سچائی کی ساری راہیں بتا دے گا“ (یوحنا باب ۱۶-۱۳)

ظاہر ہے کہ فرض کے اس منصب پر قیام کے بعد اس کی قوم کا اس کے ساتھ جو سلوک شروع ہوا۔ ایسی صورت میں ان سے اس کو کیا مل سکتا تھا۔ جب وہ اس کی ہر چیز بلکہ جان تک چھیننے کے لیے ہر وقت آمادہ رہتے تھے، پھر جس کو اپنی قوم سے کچھ نہیں ملا، نہ علم، نہ عمل ملا کہ اس سے تو وہ خود کورے تھے، لیکن اپنی آزادی کی حفاظت کے لیے ان میں سے جو قومی حمیت اور خاندانی غیرت کا جاہلانہ جوش تھا، دیکھو تو وہ اس سے بھی محروم کیا گیا، لیکن کیا اس

نے علی رؤس الاشہاد خود اپنی ہستی کی شہادت سے یہ ثابت کر کے نہیں دکھایا کہ نہ اس کو ملتا ہے جسے قوم چاہے اور نہ اسی کو ملتا ہے جو قوم سے چاہے بلکہ جس کا سب کچھ چاہا ہوا ہے جس کسی کو بھی جو ملتا ہے اسی کے چاہنے سے ملتا ہے کون شک کر سکتا ہے کہ اس دعویٰ کی سب سے بڑی دلیل وہ خود تھا اس کی زندگی تھی۔

حجر اسود کا جھگڑا:

مگر بایں ہمہ قوم سے اس وقت تک جدا رہتا تھا۔ جب تک ان کے احسان کا موقع ہوتا لیکن اسی کے ساتھ یہ عجیب بات ہے جوں ہی قوم پر احسان کرنے کی کوئی گھڑی آئی۔ لوگوں نے اس کو اس کی قوم میں ملا ہوا اور کھڑا ہوا پایا، حجر اسود کا فتنہ قریب تھا کہ قریش اپنے امن و عافیت کے آگینہ کو چکنا چور کریں لیکن دیکھو! بیابان میں انسانوں سے جدا ہو کر چوپایوں کے ساتھ رہنے والا آتا ہے اور جو درندوں کے مانند ٹھیک درندوں کے مانند ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچنے والے تھے۔ ان پھٹنے والوں کو کتنی آسانی سے جوڑ دیتا ہے آڑے وقت کے یہی تجربات تھے جس نے باوجود الگ تھلک رہنے کے اس قوم جیسے سنگین دلوں پر اس کے امین و صادق ہونے کا نقش کندہ کر دیا تھا تاکہ کہنے والے کی وہ بات پوری ہو جو صدیوں پہلے کہی گئی تھی۔

”وہ امین صادق کہلاتا ہے اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے ماسوا کوئی نہیں

جانتا“ (مکاشفہ یوحنا باب ۱۹-۱۱)

یوں ہی وہ اپنی زندگی کی مختلف منزلوں میں پدیری قوت، مادری قوت، خاندانی قوت، وطنی قوت، قومی قوت، ہر ایک کو بڑے زور سے توڑتا، پھوڑتا، جھٹلاتا ہوا مسلسل چلا آیا۔

مگر اب جو دعویٰ سے پہلے اس کی دلیلوں کی تعمیر میں ردوں پر ردے جماتا چلا آ رہا تھا لیکن ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں سب کو حیرت تھی کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔

نکاح:

تم دیکھ چکے ہو کہ اتنی عمر میں دنیا کے نوجوان کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں اس نے کچھ حاصل نہیں کیا تھا اور جس کو انسان سے زیادہ حیوانوں میں رہنا پڑا محسوس و مرئی قوتوں کے اسیروں کی نگاہیں آخر اس میں کیا پا سکتی تھیں جس کی وہ قیمت لگاتے!

یہ سچ ہے کہ اس کا خاندان عالی اور بلا مبالغہ اتنا عالی تھا۔ ایسی بزرگی و شرافت بنی آدم کے کسی گھرانے کو میسر نہ آئی، اس وقت ہی نہیں بلکہ اس وقت بھی زمین کی آبادی کا تقریباً دو ٹکٹ حصہ اسی دودمان عالی کے نفوس قدسیہ کی حلقہ بگوشی پر ناز کر رہا ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ کون نہیں جانتا کہ دنیا کے سارے یہودی و نصرانی اپنی ساری بزرگیوں اور شرافتوں کو اسی کے جدا کبر ابراہیم علیہ السلام پر ختم کرتے ہیں، پھر ابراہیم کے بچوں میں بھی جو بچہ کسی معمولی عراقی عورت کے بطن سے نہیں بلکہ شہنشاہ مصر کی صاحبزادی سے پیدا ہوا تھا اور جو ابراہیم و ہاجرہ دونوں کے دکھ کی آواز کا لاہوتی جواب تھا۔ جس کا نام بنی اسماعیل (اللہ کا سنا ہوا) تھا، وہی جس کو کعبہ کے رب نے قبول کیا اور جس کی بنیاد ابراہیم کو دنیا کی امامت کا منصب جلیل عطا ہوا ہے اور اس آنے والے کا دادا تھا جو دنیا میں بڑی شان سے آ رہا تھا۔

خاندان کی اس عالمگیر برتری کے سوا، خود عرب کے جزیرہ نما میں قریش والوں سے نسبتاً اونچا تھا اور قریشیوں میں بھی قصی و ہاشم کے گھرانے کو سب کے سامنے اپنی بے نظیر خدمات کے صلہ میں عزت و کرامت کا جو مقام حاصل ہوا تھا۔ عرب میں کون تھا جو اس کی برابری کر سکتا تھا کندھا ملانے کی کوششیں ضرور جاری تھیں، لیکن ان کے دوش کی بلندیوں تک اس وقت تک کسی کا دوش پہنچا تھا؟

یہ سب کچھ تھا لیکن نقد پرستوں کے جس گروہ سے اس وقت سابقہ تھا، ان کی کوتاہ نگاہوں اور تنگ ظرفوں کے آگے ماضی کی اس ادھار عظمت کی کیا قیمت تھی، جس بچے کا باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں، سر پرستوں میں الجھا اگر کسی ایک آدھ چچا کا نام لیا جاتا وہ بھی اپنی معاشی بد حالیوں میں الجھا ہوا ہے۔ ڈگریوں کا تو خیر وہ زمانہ نہ تھا، لیکن سرمایہ اور صلاحیتوں کا سوال تو ہر زمانہ میں رہا ہے اس وقت بھی تھا۔ ظاہر ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی بیابانوں میں بکریوں کی رکھوالی اور اونٹوں کی شبانی میں صرف چند قرار یط پر گزاری تھی۔ اس کی طرف یہ نگاہیں کس طرح اٹھتی، جن میں مادیات و محسوسات کے سوا کسی اور چیز کی گنجائش نہ تھی وہی جو کسی کو نادیدہ حسن ظن یا گمان پر ”دیدہ“ کے یقین کو کسی طرح قربان کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہوں نے اگر اس میں ”صداقت و امانت“ کی کرنیں پائی بھی تھیں تو کیا وہ اس میں ”صداقت“ اور اس ”امانت“ پر دولت و ثروت کی خواہش کو ذبح کرنے کی سکت رکھتے تھے۔

جاہل، غریب بت پرستوں سے کیا امید کی جاسکتی ہے جب خدا پرستی، صداقت شعاری کے تعلیم یافتہ مدعیوں کو بھی ہم اپنے سامنے اس حال میں پارہے ہیں جس میں شاید عرب کے یہ اجڈ گنوار بھی غالباً جتلا نہ تھے۔

مگر وہی عرب جس کی دلیل ہمیشہ دعویٰ کے آگے آگے چلی آ رہی تھی، یہاں بھی اچانک وہی دلیل ایک عجیب شان میں دفعتاً چہرہ پر داز ہوئی۔

غریب حجاز کا سب سے بڑا امیر شہر مکہ تھا اور مکہ کے تمام امیروں کے پاس مجموعی طور پر جو کچھ تھا، انفرادی طور پر اسی قدر دولت کی مالکہ اس شہر کی وہ بزرگ بی بی تھیں، جن کا اسم گرامی سلطانہ اور خدیجہ الکبریٰ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) تھا، گویا اس حساب سے صرف مکہ کی نہیں بلکہ سارے حجاز کی سب سے بڑی دولت مند خاتون آپ تھیں، قدرت کی یہ عجیب کار فرمائی تھی کہ چند پیسوں کے لیے جس کو دن بھر بولوں کے کانٹوں اور اذخر کے گھانسون کی تلاش میں جنگل جنگل پھرنا پڑتا تھا، اسی کو خدیجہ اور خدیجہ کے پاس جو کچھ تھا، سب دلا کر جسے لوگوں نے سب سے نیچا خیال کیا تھا سمجھوں سے اونچا کر دیا، تاکہ پھر ثابت ہو کہ امیری کے چاہنے والے اور اس کے لیے زمین کے قلابے آسمانوں سے ملانے والے امیر نہیں بنتے بلکہ امیر وہی ہوتا ہے، جس کے ہاتھ لوگوں کی امیری بھی ہے، اور غریبی بھی، جس دعویٰ کو وہ لے کر حرا سے بعد کو آیا، دیکھتے جاؤ کہ کن پیکروں میں اس کی دلیلیں کہاں کہاں سے اہل اہل کر جریدہ عالم پر ثبت ہو رہی ہیں!

ایسا دعویٰ کس نے سنا اور ایسی دلیل کس نے دیکھی، دعویٰ سنایا گیا اور دلیل دکھائی گئی۔ عالم استدلال و برہان کی قطعاً یہ انوکھی چیز ہے (صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم) اور دیکھو کہ اسی کے ساتھ ایک روشنی ہے، جس میں پڑھنے والے چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں کہ آئندہ جو جنبش ہوئی وہ اس سے نہیں ہوئی کہ افلاس نے کسی کو مضطرب کیا ہے۔ ناداری سے کوئی تڑپا ہے۔

خلوت پسندی:

بہر حال امیری جب آتی ہے تو اپنی شانوں کے ساتھ آتی ہے۔ ٹھاٹھ کے ساتھ آتی ہے، ٹھاٹھ کے ساتھ آتی ہے، لیکن جس کو قصر میں براجنے کا موقع دیا گیا، تلاش کرو! وہ ویرانوں میں



ملے گا، مکہ کے رئیس اپنی کوشیوں میں ہیں اور طائف کے امراء پھلوں اور پھولوں سے لدے باغوں اور ان کے بنگلوں میں ہیں، لیکن جو سب سے بڑی امارت کا مختار کل اور متصرف مجاز ہے، وہ پہاڑوں کے اندھیرے غاروں میں ہے، پھر جو سرمایہ اس کو ملا کیا وہ مہاجنی کے بازاروں میں ہے؟ رشتوں کو جوڑا گیا، مہمانوں کو کھلایا گیا، بیکاروں کو کموایا گیا، بار والوں کا بوجھ ہلکا کیا گیا۔ نادانوں کو سکھایا گیا، بیت کی گھڑیوں میں لٹایا گیا۔ یہ حضرت خدیجہ ہی کی رپورٹ ہے، جس میں ان کی دولت کام آئی۔ ۲۶

پھر جوان میں چھوٹا تھا وہ بڑا ہو چکا تھا، مال میں بڑا ہو چکا تھا، جاہ میں بڑا ہو چکا تھا، اور اپنے ہم چشموں، ہم عصروں، ہم زادوں سب میں سب سے بڑا ہو چکا تھا، آخر اس سے زیادہ بڑائی کس کو حاصل تھی۔ کالے پتھر کے لیے سرخ خون کی جوندی بہنے والی تھی جس کے اکیلے ہاتھ نے اس طوفان کا رخ پلٹ دیا تھا جس کے گھر کا مہمان ہمیشہ اکرام کے ساتھ واپس ہوا۔ جس کے دامن دولت کے نیچے یتیموں کو پناہ ملی، جو بیروزگاروں کو روزگار دلانے کا روزگار کرتا تھا، جو بے ہنروں کو ہنر سکھاتا تھا، بھاری بوجھ والوں کا بار اٹھاتا تھا۔ وہ آ رہے وقتوں میں آڑ بنا تھا۔ جو کچھ قدرت نے اس تک پہنچایا تھا وہ اس کو ان ہی راہوں میں بہاتا رہا۔

جس نے نیکی کی اتنی پیچ در پیچ شاخوں میں اپنا سارا سرمایہ ساری توانائی لگا دی تھی، اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کے بعد شہرت و عظمت، جاہ و جلال کی جو بلندیاں اسے میسر آئیں، ایسی برتری ان میں کس کو نصیب ہوئی تھی، مال و ثروت کی دیویوں یا مندروں میں ”صدق“ و ”امانت“ جیسی صفات کی، مانتا کہ پرستش نہ ہوتی ہو، لیکن کیا جاہ کے اکھاڑوں میں کردار کی ان قوتوں سے بازی نہیں جیتی جاتی؟ اور بلاشبہ وہ صرف اپنے شہر میں نہیں بلکہ اس شہر میں جہاں جہان بھر کے لوگ آتے تھے اور کون بتا سکتا ہے کہ کہاں کہاں کے لوگ آتے تھے، زیارت کے لیے بھی آتے تھے اور تجارت کے لیے بھی آتے جاتے تھے، ان سب علاقوں میں، خطوں میں، بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ ملکوں میں بھی، ان ہی راہوں سے ان کا نام اونچا ہو چکا تھا، جاہ کے لیے اس وقت جو کچھ سوچا جاسکتا تھا۔ یقیناً وہ سب اس کو حاصل ہو چکا تھا اور مالی بڑائی میں جس کنگرہ پر اس کی برتری کا پھریرہ اڑ رہا تھا اس کا تماشا تم کر چکے ہو۔

پس جو چیز اسے محلوں میں مل چکی تھی۔ کتنی بڑی بے ایمانی اور کیسی گندی اور سیاہ کور باطنی بے بنیاد بداندیشی ہوگی کہ اسی کا بہتان اس پر لگایا جائے۔ جب وہ ہفتوں، عشروں، عاروں میں دن ہی نہیں بلکہ ڈراؤنی اور بھیا تک راتیں گزارتا تھا۔ سانپوں اور بچھوؤں، درندوں اور موذیوں سے بھرے ہوئے پہاڑوں اور ٹاپوں میں اس کو ان ہی چیزوں کے لیے جانے کی کیا ضرورت تھی جو مخملی، طنفسوں، ریشمی قالینوں، عبقری گدوں، مرزکش چھپرکھٹوں پر بے فکر و تردد اگر وہ چاہتا تو بے آسانی یوں بھی مل سکتی تھی، اور وہ تو ملی ہوئی تھی، لیکن اس نے بجائے ایرانی، زرابی، رومی، نمارق کے زمین اور کھلی زمین کے پتھر، لے فرش کو اپنا بچھونا اور خارا پتھروں کو اپنا تکیہ بنایا۔

بی بی کی عصمت کا پتہ بے چارگی میں نہیں چلتا، چارہ ہو اور عصمت ہو، عصمت اسی کا نام ہے، خاک کے فرش کے سوا جس کے پاس کوئی فرش نہیں۔ وہ اگر خاک پر سویا تو کیا خاک سویا۔ جو تخت پر سو سکتا ہے، وہ مٹی پر سویا، اسی کا سونا ایسا خالص سونا ہے جس میں کھوٹ نہیں ہے اور یہ تو اس امتحان گاہ کی جس میں اب وہ اتارا جاتا ہے پہلی منزل ہے، جانچنے والے جانچ لیں، پرکھنے والے پرکھ لیں اور جس طرح سے جن جن امکانی شکلوں سے چاہیں جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو باہر لانے کی کوشش کریں۔

اپنے معیاروں کو لے کر آؤ؟ اپنی اپنی کسوٹیوں کو لے کر دوڑو! کسو! کس کر دیکھو! کہ جس کو قدرت کے ہاتھوں سے خالص اور آلائشوں سے قطعاً پاک بالکل صاف پیدا کیا ہے۔ صداقت و راستی، امانت و اخلاص کے سوا اس میں کوئی اور چیز بھی ہے، خوب کف گیریں مار مار کر دیکھو! کیا اس دیگ کا کوئی چاول کچا ہے، روشنی کی جو کرنیں اس کے اندر سے پھوٹ پھوٹ کر دنیا کو جگمگا رہی ہیں گھورو! آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گھورو، خوردبینوں کو آنکھوں پر چڑھا چڑھا کر گھورو! تاریکی کا اس میں کوئی ریشہ ہے؟

نبی مان لینے کے بعد کسی کی ہمت تھی کہ اس قدوسی سرشت کے امتحان کا اندیشہ بھی کرتا، یہی مصلحت تھی کہ ایک مہینہ نہیں، دو مہینے نہیں، سال دو سال بھی نہیں بلکہ تم میں کون نہیں جانتا

۲۷ (طنفس، عبقری یہ عربی زبان کے عالم الفاظ ہیں جو جاہلیت میں مروج تھے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی چیزیں جاہلی تمدن میں پائی جاتی تھیں، طنفسہ، زرابی مختلف اقسام کی بچانے کی چادریں، نمارق، تنکے، قرآن میں بھی ان الفاظ کا ذکر آیا ہے۔

ہے؟ کہ مکی زندگی کے پورے تیرہ سال اس حال میں اس کو گزارنے پڑے کہ گویا اس کو کوئی نہیں جانے گا۔ گویا اس کو کوئی نہیں مانے گا حالانکہ پھر اسی کو نہیں بلکہ اس کے ان کنش برداروں نے تقریباً اسی بارہ سال کی مدت میں صرف جزیرۃ العرب ہی نہیں بلکہ مشرق و مغرب ایشیاء و افریقہ کے لاکھوں میل کے رقبوں کو ایسے کروڑھا کروڑ انسانوں سے بھر دیا کہ گویا ان میں کوئی انکار کرنے والا تھا ہی نہیں، فاروقؓ ہی کے پندرہ سالہ عہد حکومت تک پہنچتے پہنچتے ایسا ہو گیا جیسا کہ حقوق نبی نے صدیوں پہلے کہا تھا۔

”آسمان اس کی شوکت سے چھپ گیا اور زمین احمدؑ کی حمد سے بھر گئی، وہ کھڑا ہوا، اس نے زمین کو لرزادیا، اس نے نگاہ کی اور قوموں کو پراگندہ کر دیا، قدیم پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے۔ پرانی پہاڑیاں اس کے آگے ریزہ ریزہ ہو گئیں زمین کے میدان کے پردے کانپ جاتے تھے۔“

ابتداء وحی:

اب دیکھو! خلوت کی اسی زندگی میں وہ ایک بڑے دعویٰ کو لے کر آتا ہے ٹھیک اسی طرح آتا ہے جیسا کہ سلیمان نبی نے کہا تھا۔

”وہ میرے محبوب کی آواز دیکھ! وہ پہاڑوں پر سے کودتے ٹیلوں پر سے پھاندتے آتا ہے۔“ (غزل الغزلات باب ۱)

اور پہاڑ سے اتر کر دنیا کے آگے اس نے حیرت سے بھرے ہوئے اس تجربہ کا اعلان کیا کہ جیسے یسعیاہ نبی نے کہا تھا۔

”ان پڑھ کو کتاب دی گئی کہ اسے پڑھ اور وہ کہتا ہے کہ میں ان پڑھ ہوں، پڑھ نہیں سکتا۔“ (یسعیاہ باب ۲۰)

سمجھنے والوں نے سمجھایا نہیں سمجھا مجھے اس سے کیا بحث، لیکن بخاری میں ہے حراء کی کھوہ میں اس کے سامنے سب سے پہلے ۲۹ فجاء الحق کا نظارہ اسی طرح بے نقاب ہوا۔ جس طرح پہاڑی کے ہرے بھرے جھاڑ کی شاداب آگے ہے۔

۲۸ (ریان اور مدیانی بائبل کی زبان میں مکہ والوں کو کہتے ہیں اور کھوہ بقول الصحیح العلامة الاستاذ الفراء ہی ۱۳)

۲۹ بخاری میں ابتداء وحی کی جو حدیث ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ غار حراء میں پہلے آپ کے سامنے ”اچانک حق نمودار ہوا۔“ یہ ”جاء الحق“ کا ترجمہ ہے۔

”اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا“ ہاں میں ہی اللہ ہوں، کوئی معبود نہیں ہے، لیکن میں ہی کی سردی گونج اس طرح گونجی کہ سننے والا نہیں بتا سکتا کہ کدھر سے گونجی، لیکن گونجی اور اسی آگ سے گونجی، حضرت موسیٰ کو یوں ہی محسوس ہوا اور یہ تو قرآن میں ہے۔ غیر قرآنی یادداشتوں میں آیا ہے کہ پتیل کے سایہ میں جو مایوس بیٹھا تھا، گیا کا وہی شامیہ منی یہ کہتا ہوا اچھلا۔

پا گیا، پا گیا، اب تجھے نہیں کھوؤں گا، جی گیا، جی گیا اب کبھی نہیں مروں گا۔“ (او کما قال) خدا ہی جانتا ہے کہ بدھ کیا تھا، کون تھا اور اس نے کہا کیا تھا، لوگوں نے کیا سنا، لیکن بھولے بسرے افسانوں میں ذکر چلا آتا ہے کہ کچھ اسی قسم کے الفاظ بولا۔

بہر حال حق کے اس فجائی اور اچانک نمود کے بعد بخاری ہی میں ہے کہ فجاء الملك تب فرشتہ آیا۔“

ملک ہی حق تھا، اور حق ہی ملک تھا جو یہ کہتے ہیں اب ان سے میں یہ کیا کہوں کہ جس نے چکھا اسی نے جانا، ہم نے نہ چکھا اور نہ جان سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے تو دعویٰ پیش ہوا، بڑا عجیب و غریب دعویٰ، دل ہلا دینے والا دعویٰ، جو دیکھ نہیں سکتے انہیں کیسے دکھایا جا سکتا تھا، نابیناؤں کے لیے اس کے سوا اور کیا چارہ ہے کہ بیناؤں کی سینس، بخت کا چھوٹا وہ ہے جو خود بھی نہیں دیکھ سکتا اور دیکھنے والوں نے جو دیکھا ہے یہ بدنصیب اس کے سننے سے بھی پیٹھ پھیرتا ہے، گردن موڑتا ہے۔

لیکن جاننے سے پہلے کون مان سکتا ہے، جانو تب مانو، پہچانو تب جھکو، یقین کی فطری راہ یہی ہے، تم آفتاب ہی کو نہ دیکھو۔ یہ تمہارے بس میں ہے، لیکن جو سورج کے سامنے کھڑا تھا، اس نے اپنی ایک پلک کو دوسری پلک سے اگر جدا کر لیا، اب اس کے قابو میں ہے کہ وہ آفتاب اور اس چمک کو جھٹلائے؟ آگ کے چھونے پر کوئی مجبوری نہیں ہے، لیکن چھونے کے بعد گرمی کے ماننے سے کون گریز کر سکتا ہے؟

بجسہ کچھ اسی طرح دیکھو کہ حرا کے دامن سے صدق و امانت کا آفتاب چڑھا، چڑھ کر انسانیت کے اس حاسہ کے سامنے آ کر ٹھہر گیا جس سے بچ جانا جاتا ہے، ممکن ہے کہ جس طرح لاکھوں میں کوئی سیا بھی ہوتا ہے جو بینائی کی فطری قوت سے محروم ہو یا شنوائی کا حاسہ اس سے مسلوب ہو، لیکن سب اندھے ہوں، سب بہرے ہوں، جس طرح یہ ناممکن ہے اسی

طرح یہ بھی محال ہے کہ آدمی ہو اور اس میں ”سچ اور سچائی کے یافت کا حاسہ نہ ہو“ یہ ڈاکٹر ہے اور وہ ڈاکٹر نہیں ہے“ اسی فیصلہ پر جانیں سپرد کی جاتی ہیں، آنکھوں میں نشتر جھبوائے جاتے ہیں۔

اس ٹرین کو سب نہیں ہنکاتے جو بیابانوں میں چلتی ہے، چڑھائیوں پر چڑھتی ہے۔ ذخار اور خونی دریاؤں کے پلوں سے گزرتی ہے، فیصلہ کی وہی قوت جو ڈرائیور کو غیر ڈرائیور سے شوگر کو غیر شوگر سے جدا کر کے ہم میں یہ اطمینان پیدا کرتی ہے کہ اپنا سب کچھ سوئپ کر ہم اپنے کو اپنے بال بچوں کو اپنے مال و اسباب کو ریل کے ڈبوں میں ڈال دیتے ہیں۔ سچ کو جھوٹ سے اگر جدا کرنے کا حاسہ ہم میں نہ ہوتا تو ڈاکٹر اور ڈرائیور کیا؟ زندگی کے کسی شعبہ کی گاڑی ایک سیکنڈ کے لیے بھی چل سکتی ہے؟

اور یہی وجہ ہے کہ سلبی یا ایجابی کون سی شکل باقی رہی جس معیار پر سچائی کی یہ ”لاہوتی“ حقیقت نہ پرکھی گئی۔ زر لے کر دوڑنے، زمین لے کر دوڑنے، زن لے کر دوڑے۔ الغرض جو کچھ سوچا جا سکتا ہے ہر ایک سے رگڑ رگڑ کر، گھس گھس کر انہوں نے جانچا، لیکن صدق و امانت کے احساس کی وہی گرفت جو دعویٰ سے پہلے ان کے دلوں پر مسلط تھی۔ کسی تدبیر سے ڈھیلی نہیں پڑتی۔ اس میں کیا ہے؟ اس کے اندر کیا ہے؟ مال ہے، جاہ ہے، یا کچھ اور ہے۔ ہر سوال کی سلائیاں، لمبی لمبی سلائیاں ڈال ڈال کر ہر ایک نے دیکھا، بار بار دیکھا، لیکن سچ کے سوا اس میں کچھ نہیں ہے، اخلاص کے سوا اس میں کچھ نہیں ہے، ہر آزمائش، ہر جانچ کا آخری نتیجہ یہی برآمد ہوا۔ جانچ کی یہ ایجابی شکلیں تھیں، اس راہ سے انہیں کچھ نہیں ملا۔

اب وہ منفی و سلبی تدبیروں کے متعلق باہم ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے۔ دارالندوہ کی مجلسی سرگرمیاں جتنی اس وقت تیز ہوئیں، اس کی تاریخ میں ایسی گرم بازاری اسے کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔

مسلو! اس کے باطن کو مسلو! متھو! اس کے اندر جو کچھ ہے سب کو متھو! ملو! ملو! اور جس جس جتن سے جو کچھ ممکن ہے سب کچھ کر گزرو! قدرت نے اس کا بھی ان کو وسیع موقع بغیر کسی مزاحمت کے بڑی فیاضی کے ساتھ اتنی فیاضی کے ساتھ جس کی نظیر حق و راستی کے تجربہ کی تاریخ میں قطعاً مفقود ہے، عطا فرمایا۔

جو کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا اور جب اجازت ہو گئی تو کیا کر کے اس نے نہیں دکھا دیا۔ وہی اس وقت سکون تام صبر مطلق کا ایک کامل مجسمہ بن کر اپنے کو اپنے ظاہر و باطن کو ان میں ہر ایک کے آگے ڈالے ہوئے تھا۔

جانچ کی اس راہ میں پھر کیا پیش ہوا۔ بجز اس کے جس میں اسی درجہ کا صدق ہو جو اس میں تھا اسی درجہ کی امانت ہو جو اس میں تھی (اور یہ مقام نسل آدم میں کسی کو میسر آ سکتا ہے ان کو کون جھیل سکتا ہے؟)

تعذیب صحابہؓ:

اس کے لاوارث بیکس ساتھیوں پر پہلے انہوں نے ہاتھ چھوڑا اور اس طرح چھوڑا کہ چہرہ دستیوں کا کوئی ایسا دقیقہ نہ تھا جسے انہوں نے رکھ چھوڑا۔ دہکتے ہوئے کونکوں پر زندہ کھال والی پٹھیں، تنگی پٹھیں لٹائی گئیں، جلتی ہوئی ریت پر جانداروں کو سلایا گیا۔

کتے جب مر جاتے ہیں تب ان کی ٹانگوں میں رسی باندھ کر مہتر گھسیٹتے ہیں، لیکن قریش کے مہتروں میں ایسے مہتر بھی تھے جنہوں نے جیتے جاگتے آدمیوں کے گلے میں رسیاں باندھیں اور مکہ کی گلیوں میں ان ہی رسیوں کے ساتھ وہ گھسیٹتے گئے، گرم پتھروں پر کھلے بدن کے ساتھ کوڑے مار مار کر سچ کو چھوڑ کر جھوٹ بولنے کے لیے تڑپائے گئے، تلملائے گئے، چٹائیوں میں باندھ کر ناک کی راہ سے تیز و تند ایندھنوں کا دھواں پہنچایا گیا، جن پر یہ گزر رہی تھی ان کا جو کچھ امتحان تھا ظاہر ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس رؤف و رحیم فطرۃ طیبہ میں جنبش پیدا کرنے کے لیے یہ طوفان اٹھایا گیا تھا اس کے صبر مطلق اور سکون تام کے لیے یہ بڑا سخت اور کڑا امتحان تھا اس کے سوا جو وہ اپنے اندر بتاتا تھا اور کسی چیز کا ادنیٰ شائبہ بھی ہوتا تھا تو اس کے لیے اس کے رقیق قلب، گداز دل کے لیے یہ منظر ناقابل برداشت تھا، لیکن سب کچھ ہلا دیا گیا اور پوری طاقت کے ساتھ ہلا دیا گیا مگر جو ”سچائی“ کی چٹان پر بٹھایا گیا، بجز آنکھوں میں آنسو بھرنے کے اس میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ بوڑھی غریب بے کس عورت کے سر پر انگارے رکھے گئے، اس کے سامنے اس کے شوہر کے سینہ میں برچھا بھونکا گیا۔ حضرت عمار کی والدہ اور والد کی اس جگر شکاف حالت کو دیکھ کر زبان میں اضطراب حرکت پیدا ہوئی، لیکن اس حرکت میں جو آواز آئی وہ صرف یہ تھی۔

عمار کے گھر والو! اللہ تم پر رحم فرمائے۔

تنگی کے بعد کچھ دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فراخی پیدا کر دے۔“

ہجرت حبشہ:

چڑیوں کے بھی گھونسلے ہوتے ہیں جن میں وہ پناہ لیتی ہیں اور سانپوں کی بھی بانئیاں ہوتی ہیں جن میں وہ چھپ کر رگیدنے والوں سے اپنی جان بچاتے ہیں، لیکن دعویٰ کے زور کو توڑنے کے لیے ستم کے جو پہاڑ جن غریبوں پر توڑے جا رہے ہیں ان کے پاس تو وہ بھی نہ تھا، ان میں بڑی تعداد ان غلاموں کی تھی، جن کا نہ اپنا گھر ہوتا ہے اور نہ دنیا ایسے تھے جو دوسروں کے سہارے زندگی بسر کر رہے تھے۔ جس پر سہارا ہو جب وہی سہاروں کو ختم کرنے کے درپے ہو جائے تو اب اس کے لیے کہاں پناہ ہے؟ اتنا سرمایہ بھی نہیں تھا کہ عرب کے اس ٹاپو کو چھوڑ کر خدا کی لمبی چوڑی زمین میں اور کسی اور جگہ اپنے سجدوں کے لیے جگہ پیدا کریں، اف کہ ان کی پیشانیوں کو خدا ہی کی زمین پر زمین کا اتنا ٹکڑہ بھی میسر نہ تھا جس پر وہ اپنی پیشانی اپنے خدا کے آگے رکھ سکیں۔

اس کو اپنی جگہ سے ہلانے کے لیے اس جگہ سے ہلانے کے لیے جس پر قدرت نے بٹھانے والے کو بٹھلایا تھا۔ دوسروں پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ بالاخر اسی کو اپنے سینہ پر پتھر رکھنا پڑا اور اپنی چہیتی صاحبزادی اور محبوب داماد کو آمادہ کیا، تاکہ دوسروں کو گھر مل سکے۔ اپنے گھر نعمتوں سے بھرے ہوئے گھر کو چھوڑ دو! جلا وطنی کے مصائب سے قطعاً ناواقف نوجوان دولہا اور نویلی دلہن نے سر جھکا دیا اور بن گھروں کو گھر دلانے کے لیے یہ گھر والا سمندر پھاند کر حبشہ پہنچ گیا۔ حضرت عثمانؓ آنحضرتؐ کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ عنہا جوان کی بیوی تھیں ان کو اور مکہ کے غرباء فقہاء اور اسی قسم کے ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر حبشہ پہنچے۔ جن کے ماں باپ اعزاء اقرباء ایمانداروں کو بے ایمانی پر مجبور کر رہے تھے اور یہ پہلی دفعہ نہیں بلکہ ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ ایمان پر کبھی جبر نہیں کیا گیا، لیکن بے ایمانی پر مجبور کرنے کے واقعات سے تو تاریخ بھری پڑی ہے۔ اس پر بھی بے ایمانوں نے پھیلا یا کہ ایمان ہی جبر سے پھیلا، بہر حال اسی جماعت میں ابوطالب کے نوجوان صاحبزادے جعفر طیار تھے بڑی کش کش ہوئی یہ دکھانے

کے لیے کہ جانچ کا کام جن کے سپرد تھا انہوں نے جانچنے میں کوئی کمی نہیں کی پر کھنے کے اس معاملہ کو اس نے آخر تک پہنچایا تھا۔

یہ دکھایا گیا کہ امتحان لینے والوں کی اس جماعت نے سلطنتوں کے بھی پرواہ نہ کی۔ ہاتھیوں والے بادشاہ کے شاہی دربار تک کے پردہ ہائے جلال کو چاک کرنے کی اگر اس راہ میں ضرورت پیش آئی تو وہ یہ بھی کر گزرے۔

جن کے انہماک و دلچسپی کا حال یہ ہوا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے آزمائش کے سلسلہ میں کوئی دقیقہ اٹھا رکھا ہوگا؟ بادشاہتیں ختم ہو گئیں، سلطنتیں مٹ گئیں، لیکن تاریخ کے اس طویل عرصہ میں دنیا کی جو سلطنت اب تک اپنے پاؤں تلے پر قائم ہے اور جس کو چیت کرنے کے لیے سائنس اور کیمیا کے ہتھیاروں سے اس وقت تک کوشش جاری ہے، لیکن دنگل میں ابھی تک خم ٹھونک رہی ہے، اسی حبشہ کے تخت کا نجاشی اپنے وزیروں، امیروں، پادریوں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور جو اللہ کے غلاموں کو اپنا غلام بنانے کے لیے آئے ہیں، اچھل رہے ہیں کہ ان کی پیاسی تلواروں کے لیے اب خون دیا جائے گا اور ان کے انکاروں کے لیے اب کباب عطا ہوں گے۔

نجاشی کے دربار میں جعفر طیار کی تاریخی تقریر:

لیکن جونہی کہ وہ نوجوان سلطان کے سامنے ان دیکھی قوت کے ساتھ اٹھ کر کڑکتا ہے۔
سن اے بادشاہ! ہم لوگ جاہلیت میں غوطے کھا رہے تھے، ہم پتھر کی کھودی ہوئی
مورتوں کے آگے جھکتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم بے حیائیوں سے لت پت تھے

۱۱۰ (افسوس ہے کہ جس وقت یہ مضمون لکھا جا رہا تھا، اس سلطنت کا یہ حال تھا، جو مظلوموں کو پناہ دے کر چودہ سو سال تک قدرت کی پناہ میں آئے تھے، ان کے ایک بادشاہ نے ظلم کیا، صرف اس لیے ظلم کیا کہ حبشہ کے تخت کا وارث بن جائے، تین خداؤں کے ایک خدا کا بندہ ہو چکا تھا، یا ہو رہا تھا، غریب منی لک جو سلطنت کا اصلی وارث تھا، اسلام کے جرم میں تخت سے محروم کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، نیل سلاسی نے اس کو بڑی کامیابی سمجھی، لیکن پروانہ کے خون ناحق نے شمع کو بھی حکومت کرنے کی اجازت نہ دی، ظالم پر ظلم مسلط کیا گیا اور اس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا ۱۲)

۱۱۱ (یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بڑے بھائی جعفر طیار تھے، وطن چھوڑنے والوں کے ساتھ حبشہ گئے، آٹھ سال بعد آنحضرت سے مدینہ میں آ کر ملے، چند دنوں کے بعد موت کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ شہادت کے وقت عمر مبارک تیس سال سے کم تھی، چند سال ہوئے کہ نعش مبارک تیرہ سو سال بعد اصلی حالت میں برآمد ہوئی، جسم پر زخموں کے نشان موجود تھے، اخباروں میں یہ خبر چھپی تھی ۱۲)

ہم رشتوں ناطوں کو کاٹتے تھے۔ ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے صرف دکھ اور رنج تھے، زور والے ہمارے بے زوروں کو نکلنے چلے جا رہے تھے کہ اچانک ہم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اٹھایا، جس کے نسب کو بھی ہم جانتے ہیں، جس کی سچائی کا صدق کا امانت کا پارسائی کا ہم سب کو تجربہ ہے۔“

اسی نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف پکارا اور حکم کیا کہ ان ساری گندگیوں، ان سارے جھوٹے پتھر کے کھودے ہوئے دیوتاؤں سے ٹوٹ کر جدا ہو جائیں جن کے ساتھ ہم پہلے لپٹے ہوئے تھے۔

اے بادشاہ! اس نے ہم پر اصرار کیا ہے کہ جس کی امانت ہو اس کو واپس کر دیں۔ رشتوں اور برادر یوں کو جوڑیں، پڑوسیوں سے حسن سلوک برتیں، اللہ نے جن باتوں سے ٹوکا ہے، جس کے خون سے روکا ہے، ان سے رک جائیں۔ بے شرمی کے کاموں، بے حیائی کے دھندوں کو چھوڑ دیں، اس نے ہمیں منع کیا ہے کہ بناوٹی باتیں نہ بنائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پاک باز عورتوں پر تہمت نہ جوڑیں۔

(دہرا کے زور دیتے ہوئے) اس نے ہم کو حکم کیا ہے کہ اللہ ہی کو پوجتے رہیں، کسی کو اس کا سا جھی اور شریک نہ بنائیں۔

اور اس نے ہم پر یہ بھی لازم کیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں اور روزے رکھیں۔

پس ہم اس پر سچا یقین کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں اس کی باتوں کو مانتے ہیں، جو کچھ اللہ کے یہاں سے لایا ہے، اس پر ہم چلتے ہیں (پھر پلٹ کر) اسی لیے ہم صرف اللہ ہی کو پوجتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک و سہیم نہیں سمجھتے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا، ہم نے بھی اس کو حرام کیا، جن چیزوں کو اس نے حلال کیا، ہم نے بھی ان کو حلال کیا۔“

سنانا چھا گیا، اپنی زمین کا سب سے مطلق العنان بادشاہ چیخ اٹھا۔ روتا جاتا تھا اور کہتا

جاتا تھا۔

”ایسوں کو کون دے سکتا ہے ان کو کیسے حوالہ کیا جاسکتا ہے۔“

جو لوہا گرم ہوا تھا جب اس کی گرمی کا یہ حال ہے تو جس نے اس کو گرم کیا تھا (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کی حرارت کو کون برداشت کر سکتا تھا، مگر وہی جنہوں نے چھو نہیں تھا یا جو چھونے سے ہچکچا رہے تھے ورنہ جنہوں نے چھولیا تھا دیکھ رہے ہو کہ یہ آگ کسی طاقت سے بجھ رہی ہے۔ غریبوں سے، امیروں سے، شاہی قوت کے فوارے سے بچھانے کی کوشش کی گئی، لیکن بجائے بجھنے کے وہ اور بھڑکی، بجائے دبنے کے وہ اور بھکی۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ جاننے نہ جاننے، چھونے نہ چھونے، دیکھنے نہ دیکھنے کا سب کو اختیار ہے، لیکن جس نے جان لیا، جس نے چھولیا، جس نے دیکھ لیا نہ ماننا، اس کے بس سے باہر ہو جاتا ہے۔ حقیقت کی گرفت سے اس کے بعد اپنے کو صرف وہی آزادی دکھا سکتا ہے جو گرفتار ہوتا ہے لیکن کسی باطنی شرارت کی وجہ سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں آزاد ہوں، یہ ہٹ دھرموں کا گروہ ہے، یہ ڈھٹائی والے معاندین کی جماعت ہے جو جھٹلاتی ہے اور کسی باطنی خبث کی وجہ سے جان بوجھ کر جھٹلاتی ہے، مگر یہ لوگ وہ نہیں تھے جو جاننے ہی سے جان چڑا رہے تھے یا دیکھنے سے آنکھیں میچ رہے تھے بلکہ انہوں نے جاننے کے اختیار کو استعمال کیا پھر ماننے سے کیسے باز رہ سکتے تھے۔

جس نے سورج اور اس کی شعاعوں کو دیکھ لیا، کیا اپنی آنکھ سے ان کے احساس کو پونجھ کر چھو کر سکتا ہے۔

ذات مبارک کے ساتھ ایذا رسانیوں کا آغاز:

بہر حال یہ تو ان کی جانچ تھی جو گرمائے گئے تھے، لیکن ان تمام گرمیوں کا جو حقیقی منبع اور ان کا گرمانے والا تھا، اب تک اس کے صرف ایجابی امتحانات تک بات پہنچی تھی اس کو تو انہوں نے اس وقت تک مہلت دے کر جانچا تھا جس طرح اس کے ساتھیوں کی جان لے کر ان کی عزت و آبرو لے کر۔

ان کی جسمانی راحت و آرام کو لے کر ان کے جینے کے حق کو چھین کر انہوں نے آزمایا تھا ”صدق“ و ”امانت“ کے اس حقیقی سرچشمہ کے ساتھ آزمانے کی اس راہ کو اختیار کرنے سے کچھ جھجک رہے تھے جس کا امتحان تھا، اگرچہ خود اس کو دیدہ اور مرئی قوتوں سے انکار تھا،

لیکن ان آزمانے والوں کی نگاہوں، تنگ نگاہوں میں تو بھروسہ صرف وہی تھا جو سامنے ہو، بہر حال اس بھروسہ کی تعداد ہی کتنی سی تھی، لیکن جتنی بھی تھی، جب اس میں سے اسی پچاسی آدمی نکل گئے تو ظاہر ہے کہ آزمانے والوں کے لیے راستہ بہت کچھ صاف ہو چکا تھا، یہ سچ ہے کہ جمہوریہ قریش کے بین الفرقی یا بین القبائلی قوانین کی رو سے بھی اس پر ہاتھ دراز کرنا آسان نہ تھا جو ان غلاموں، پردیسیوں، بیکیوں کی طرح لاوارث نہ تھا۔ جن کے ساتھ ان ظالموں نے جو رستم کی چاند ماری، ٹھنڈے سانسوں کے ساتھ کھیلی تھی، وہ بنی ہاشم سے بھی دبتے تھے اور ان کے حلیفوں سے بھی شرماتے تھے، جن کے ساتھ ان کے ”نشانہ“ کا خاندانی تعلق تھا۔ تاہم زیادہ دن تک وہ صبر نہ کر سکے۔

ابوطالب کو توڑنے کی کوشش:

اور اب سبھی آزمائشوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، قریش کے گھاگھوں کی مجلس نے طے کیا کہ اس کے لیے زیادہ لمبی چوڑی کوششوں کی حاجت نہیں بلکہ ان کی ظاہری آنکھوں کے سامنے اس کی جو سب سے بڑی چٹان تھی، جس پر اگرچہ وہ خود ٹیک لگائے ہوئے نہیں تھا، لیکن وہ یہی باور کرتے تھے کہ اس کی سب سے بڑی ٹیک اس کا چچا ابوطالب ہے۔ طے کیا گیا کہ بس اسی چٹان کو جس طرح بن پڑے، کسی طرح اس کے قدموں کے نیچے سے سر کالو، یقین تھا کہ اسی کے ساتھ وہ اور اس کا دعویٰ دونوں ہی سر بسجود ہو جائیں گے جو کچھ ممکن تھا، اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے کیا۔

ابتداء میں انہیں کچھ مایوسیاں ہوئیں اور اچھی خاصی مایوسیاں ہوئیں، لیکن واقع میں وہ کس طرح پرکھڑا ہے اس کے عینی شاہد کس طرح پیدا ہوتے اگر ابوطالب اپنی چالیس سال کی محنت و محبت کو برباد کرنے پر آمادہ نہ ہو جاتے، تاریخ نے اس دردناک مرقع کی تصویر محفوظ رکھی ہے جس وقت اپنے گودوں کے پالے ہوئے یتیم بھتیجے کو لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں آبدیدہ ہو کر ابوطالب کہہ رہے تھے۔

لا تحملنی مالا اطبق (مجھ پر اتنا نہ لا دو جسے میں اٹھانہ سکوں)

قریش کامیاب ہو گئے، چٹان لڑھک گئی، لیکن قریش ہی نے نہیں بلکہ دنیا نے دیکھا کہ جس کو گرانے کے لیے یہ کیا گیا تھا، وہ جہاں تھا وہاں سے ہلا بھی نہیں صرف آواز آ رہی تھی کہ کہنے والا کہہ رہا ہے۔

”خدا کی قسم میرے داہنے ہاتھ میں آفتاب اور بائیں میں ماہتاب اگر اس لیے رکھ دیا جائے کہ میں اس امر کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دوں تو یہ نہیں ہو سکتا۔“

یہ تو ان کی ایجابی کوششوں کی امید دہی چھپی چنگاریوں کو آخری طور پر بجھانے کے لیے فرمایا گیا اور اس کو تو وہ دیکھ بھی چکے تھے آفتاب و ماہتاب تو ان کے پاس تھے نہیں، لیکن جو کچھ بھی تھا سب کو دے کر مایوس ہو چکے تھے باقی اب جن سلبی اور ایذائی مہموں کا انہوں نے آغاز کیا تھا اس کے متعلق بھی قطعی لفظوں میں اعلان کر دیا گیا۔

”یہ کام پورا ہوگا یا میں اس میں مر جاؤں گا۔“

کام تو پورا ہونے والا تھا اور اس میں شک کی گنجائش ہی کیا تھی، لیکن دے کر تو تم دیکھ چکے ہو اب لے کر دیکھو! اچھی طرح دیکھو! اس سلبی امتحان کی راہ میں جان تک کی بازی لگادی گئی اور یہی مطلب تھا۔

او اھلک فہ (یا میں اس میں مر جاؤں گا یا مارا جاؤں گا)

سنگ دل، سیاہ سینہ جانچنے والوں نے پھر کیا اس سلسلہ میں کہیں رحم کھایا۔ جو کچھ کر سکتے تھے سب کچھ کر رہے تھے، لیکن ان کا کہیں دل دکھا؟ عزت پر، آبرو پر، جسم پر، جان پر، حملوں کی کوئی قسم تھی، جس کو انہوں نے باقی چھوڑا۔ یقیناً ان کے ترکش میں کوئی تیرا ایسا نہ تھا جو چلنے سے رہ گیا۔ نکاحی بیٹیوں کو طلاق دلوائی گئی، سر پر خاک ڈالی گئی، راہ میں ۳۳ چہرہ مبارک پر بلغم تھوکا گیا گردن مبارک میں پھندا لگایا گیا۔

شعب ابی طالب:

اور آخر میں سب جانتے ہیں کہ کھانا بند کیا گیا، پانی بند کیا گیا۔ زندگی کے تمام ذرائع روکے گئے۔ ایک ماہ نہیں پورے تین سال تک ابی طالب کی گھائی میں اسی طرح رہنے پر مجبور کیا گیا، خود ان کو مجبور کیا گیا اور ان کے ساتھ بوڑھے ابو طالب اور معصوم بچے، ناتواں عورتیں جو بنی ہاشم اور چند دوسرے خاندانوں کی تھیں۔ اسی حال میں ڈالے گئے۔

۳۳ (آنحضرت کی دو صاحبزادیوں کا نکاح ابولہب کے دونوں لڑکوں سے ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف آبروریزی کے خیال سے ابولہب نے اپنے لڑکوں کو حکم دیا کہ طلاق دے دیں، عرب کے شریف گھرانوں میں طلاق بڑی بے عزتی کی بات تھی، ۱۲)

۳۴ تفصیل کے لیے دیکھو میری کتاب ”مصائب النبی“ ۱۲)

وہی فطرت رحیمہ و رؤفہ جو انسان تو انسان کسی جانور کے دکھ کو بھی دیکھ کر تڑپ جاتی تھی۔ اس کے لیے آزمائش کی کیسی کڑی گھڑی تھی کہ ننھے ننھے بچے اس لیے بلبلا تے تھے کہ ان کی ماؤں کی چھاتی میں دودھ نہیں ہے۔ آٹھ آٹھ دن دس دس دن ان کے منہ میں اڑ کر کوئی کھیل بھی نہیں پہنچی ہے، کیا سخت وقت ہے کہ پیشاب سے شرابور خشک چمڑے کو دھو کر بھون بھون کر ان کو کھانا پڑا، جن کے دانتوں نے شاید سوکھا گوشت ۳۵ بھی نہیں چبایا تھا، جو پتے شاید بکریاں بھی شوق سے نہ کھاتیں، ان پر ہفتوں بسر کرنا پڑا۔ مصیبت کی ان چیخوں، تکلیف کی ان پکاروں میں اس احساس فطرت طیبہ کے لیے کیسی عظیم بے چینی تھی، اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں، جن کے دل میں درد ہو، اور جو درد والوں کے لیے اپنے اندر کوئی ٹیس رکھتے ہوں، لیکن یہاں تو باطن کو ظاہر کر کے دکھانا تھا۔ چھوڑ دیا گیا تاکہ کریدنے والے جہاں تک ممکن ہو کریدیں، وہ مسل رہے تھے، رگڑ رہے تھے، انگلیاں ڈال ڈال کر ٹٹول رہے تھے کہ جو کچھ ظاہر کیا جا رہا ہے کیا اندر میں کچھ بھی کہیں بھی اس کے سوا کچھ ہے۔ تجربے کرنے والوں کے لیے تجربے کے سارے ساز و سامان، تمام آلات اور اوزار ایک ایک کر کے مہیا کر دیئے گئے تھے کہ آئندہ انہی کو گواہی دینی تھی، ان ہی کو دنیا کے آگے فرض شہادت ادا کرنا تھا۔

شعب ابی طالب کے مصائب کی قیمت، واقعہ معراج:

ابو طالب کے شعب کا مرحلہ بھی ختم ہو گیا۔ یہاں دنیا کی ہر چیز سے جدا کیے گئے تھے اور جدائی کی رفتار کو گھاٹی کے ستم زدوں کے شور و فغاں نے اور تیز کر دیا تھا جو فطرتاً دنیا اور دنیا والوں سے کچھ جدا ہی جدا سا تھا، جب قصداً بھی اس کو جدا کیا گیا اور ایسے سخت دباؤ ڈال ڈال کر جدا کیا گیا جس سے زیادہ دباؤ اس رقیق قلب کے لیے ممکن نہ تھا۔ سمجھا جاسکتا ہے کہ کائنات سے جدائی کی اس رفتار نے آخر کسی دوسری جانب ارتقاء کی کتنی منزلیں طے کی ہوں گی، جس چیز کو ایک طرف سے دباؤ گئے تو دوسری طرف سے اس کا ابھرنا ناگزیر ہے، ستر اور خاموشی سے کام لیا جاتا تو وہ خود عقل قیاس کرتی کہ اس دباؤ نے کسی دوسری سمت کتنا ابھار پیدا کیا ہوگا۔

لوگ سوچتے نہیں ورنہ جب شعب ابی طالب سے نکلنے کے ساتھ ہی کہنے والے نے حرا کے واقعہ سے بھی زیادہ قدرت کی نادرہ نمائی کا اظہار کیا تو جن پر ابھی اس شب کی روشنی نہیں کھلی تھی، جس میں ”ان پڑھ کو کتاب دی گئی“ وہی کہنے لگے کہ ایک رات میں اتنا عروج ایسا عروج کس طرح میسر آیا۔

واقعہ معراج کے متعلق چند ارشادات:

ان بھولے بھالوں سے کوئی کیا کہہ سکتا ہے، آخر جو نیچے سے دبایا گیا اور مسلسل اتنی بے درد یوں سے دبایا گیا اور وہ دبتا ہی چلا گیا۔ کس قدر عجیب بات ہے کہ اسی کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اوپر کی طرف کس طرح چڑھا اور کیوں چڑھتا گیا جن کو یہی نہیں معلوم ہے کہ عالم کیا ہے؟ انسان کیا ہے؟ اور دونوں کا بنانے والا کیا ہے؟ عالم انسان میں ہے یا انسان عالم میں ہے؟ جن پر یہی معہ نہیں کھلا ہے تو پھر وہ اس گره کو کیا کھول سکتے ہیں، جس میں انسان اپنے خالق کے ساتھ بندھا ہوا ہے، خالق عرش پر بھی ہے اور جس کو خلیفہ اور آدمی کہتے ہیں، وہی جس میں خالق کی روح پھونکی گئی ہے، اس کی گردن کی ورید کے پاس بھی عرش ہی والا خالق ہے۔

جب تک ان مناقضات کے تناقض کو تم سلجھا نہیں سکتے اس قسم کے ژولیدہ حقائق کی گتھیوں میں کیوں الجھتے ہو۔ جو نہ روح کو جانتے ہیں اور نہ جسم کو، وہی باہم ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے ہیں کہ کیا یہ واقعہ روح کے ساتھ پیش آیا یا جسم کے ساتھ پیش آیا تو کیا؟ روح کے ساتھ پیش آیا تو کیا؟ جن کی سمجھ میں دونوں پہلوؤں میں سے ایک پہلو بھی نہیں آتا، وہ ان دو شقوں سے ایک کا تعین آخر کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ ہستی کا جو تناور درخت تمہارے سامنے کھڑا ہے اور جس کے مختلف حصوں کے نام خاک و آب و آتش و باد و سفلیات و علویات، ارض و سماوات، مریات و غیرہ مریات ہیں، وہی جس سے تمہارے سامنے فرات^{۳۶} نیل یا

۳۶ (معراج میں آنحضرت نے ”سدرۃ المنتہی“ کی جڑوں سے جنت کی نہروں کو بہنے دیکھا اور فرات و نیل کو بھی اسی کے اندر سے پھوٹتے پایا، آپ کے اس بیان ہی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ ”سدرۃ المنتہی“ کوئی ایسی حقیقت ہے جو محسوس اور نامحسوس عالموں میں بطور قدر مشترک کے ہے، تفصیل کے لیے دیکھو حجة اللہ شاہ ولی اللہ اور میری کتاب المعراج (۱۲)

گنگا و جمنہ کی موجیں بھی ابلتی ہیں اور پھر اسی سے ان عالموں میں جہاں تمہاری اور تمہاری بیٹائی کی رسائی نہیں، تسنیم و کوثر کی نہریں بھی پھوٹی ہیں، تم کو کیا معلوم کہ اس درخت کی جڑ کہاں ہے اور اس کی مہنگ و جود کی کس شکل پر ختم ہوئی ہے نہ دیکھنے والے کیوں منہ تکتے ہیں جب دیکھنے والے نے کہا کہ وہ سدرۃ المنتہیٰ ہے مٹی ہی گیہوں ہے اور گیہوں ہی روٹی ہے، روٹی ہی خون ہے اور خون ہی گوشت ہے اور گوشت ہی کہیں آنکھ ہے، کہیں جگر ہے، کہیں ہڈی اور کہیں ناخن ہے۔ ایک ہی وجود تمہیں مختلف پیرایوں میں کیا کیا نظر آیا؟ پھر اگر کسی نے شجر و جود ہی کے اندر نیل و فرات کو بھی اور تسنیم و سلسبیل کو بھی نکلتے دیکھا تو غلط کیوں دیکھا۔ جب دودھ پلایا گیا تو اصبۃ الفطرۃ کی آواز آئی، ایک صفت اگر دوسرے عالم میں دودھ کے رنگ میں دیکھی گئی تو پھر جھوٹ کی شکل دوسری دنیا میں اگر پتھر بن جائے، حسد کی شکل بچھو کی ہو، حرص جو ہے کی شکل میں دوڑتا دکھائی دے تو اس پر حیرت کیا ہے، یقیناً انسان میں دونوں خواہشیں ہیں، حیوانی بھی اور ملکوتی بھی پھر حیوانی خواہشوں پر قابو پانے والوں کو اپنی یہ خواہش کسی حیوان ہی کے بھیس سے نظر آئے تو اس میں حیرت کیا ہے وہ سفید ہو، براق ہو، برق رفتار ہو، اتنا برق رفتار ہو کہ جہاں اس کی نظر پہنچتی ہو وہیں اپنے قدم رکھتا ہو، وہ گھوڑوں جیسا بے ڈول لمبا نہ ہو، گدھوں جیسا ذلیل پست نہ ہو، موزوں قامت ہو، سب کچھ ہو لیکن رہے گا وہ حیوان ہی۔ کیا کیا جائے بڑی نشانیاں یا آیات کبریٰ کا سیاح چھوٹی نشانیوں یا صغریٰ آیات کے اندر رہنے والوں کو کس طرح سمجھائے کہ وہ کہاں کہاں گیا؟ کب گیا کس طرح گیا۔

اس بہرے کو جو نور کے عالم کی سیر کر چکا تھا۔ جب آواز کی اس دنیا میں چلنے کے لیے کہا گیا جو موروں کی جھنکار، شیروں کی ڈکاروں، چڑیوں کے چہچہوں، چکوروں کے تہتہوں سے معمور تھی تو اس نے پوچھا کہ آواز کی دنیا؟ کتنی دوز، کس پر؟ کتنی دیر میں پہنچا جا سکتا ہے؟ حالانکہ کان کا پردہ اٹھا اور یہ سارے سوالات کا فوراً تھے، جس کے صدر کا شرح ہوا، جس کا سینہ کھولا گیا، جس کے ظاہری حواس کے ساتھ باطنی احساسات بھی جگا دیئے گئے لوگ اس کو سن

۳۷ (قرآن کی جس آیت میں اسراء یعنی معراج کا ذکر ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اس لیے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جانب رات کو لے گیا تاکہ ”سب اپنی نشانیاں“ اس کو دکھائے اور دوسری جگہ جہاں اسی واقعہ کا ذکر ہے وہاں نشانیوں کو آیات کبریٰ بڑی نشانیاں قرار دیا ہے۔ ۱۲)

کر پریشان کیوں ہوتے ہیں حالانکہ جن کے لطائف و اسرار صاف ہیں اور ان لطائف کو تو تقریباً ہر شخص صاف کر سکتا ہے ان سے اگر پوچھا جاتا تو اس کی تصدیق کرتے۔

اور بات یہ ہے کہ جو کچھ دکھایا جانے والا تھا کیا ہوا، اگر کسی خاص شان میں وہ کچھ دن پہلے دکھایا گیا۔ ہزار ہا پیغمبروں سے کل آٹھ پیغمبروں اور ان میں بھی آدم سے شروع ہو کر معمار کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت پر اس شخص کی ملاقات کیوں ختم ہو گئی جو آدم کی طرح اپنے وطن سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچا اور جب مکہ فتح ہو گیا اس کا کام بھی ختم ہو گیا، جس نے دیکھا اور جنہیں دکھایا گیا۔ دونوں کی زندگیوں پر غور کرو، نظر آئے گا کہ جو ہونے والا تھا وہ کسی رنگ میں اس وقت ہو رہا تھا، حالانکہ ان ہی واقعات کے سلسلہ میں جب صرف ”زندگی“ نہیں بلکہ ”امانت کبریٰ“ کی زندگی اقصیٰ کی مسجد میں دکھائی گئی تو اس وقت آٹھ ہی نہیں بلکہ دنیا کے سارے پیغمبر اس امام کے پیچھے کھڑے نظر آئے جو نوع انسان کا سب سے بڑا امام ہے۔

(اللہم صل علیہ وسلم)

اور سچ یہ ہے کہ جس کو سچا مانا گیا اس کے ہر ”سچ“ پر دلوں میں شک کا ابھار یقین کرو کہ اس ماننے کا ہدایت انکار اور اس ایمان سے یہ قطعاً ارتداد ہے۔ مرتد ہوا جس نے انکار کیا اور صدیق ٹھہرا جس نے اقرار کیا۔

اف! میں بہت دور نکل گیا، لیکن دور ہونے والوں کو قریب کرنے کے لیے کچھ دیر ہوئی تو وہ دیر نہیں ہے۔ بہر حال بات یہ ہو رہی تھی کہ جو ایک طرف سے اگر دبا دیا گیا تو اچنبھا

۳۸۔ پہلے آسمان پر آدم دوسرے پر عیسیٰ دیکھی علیہ السلام تیسرے پر ادریس چوتھے پر ہارون پانچویں پر یوسف چھٹے پر موسیٰ ساتویں پر ابراہیم کو دکھایا گیا، آدم نے جس طرح اپنے وطن جنت سے نکل کر دنیا کی ہجرت کی آنحضرت مکہ (وطن) سے نکل کر مدینہ پہنچے۔ مدینہ میں یہودی فتنہ نے آپ کو اسی طرح گھیرا جس طرح عیسیٰ دیکھی علیہ السلام ان میں گھرے۔ ادریس علیہ السلام کتابت کے موجد تھے بدر کے بعد آنحضرت نے مسلمانوں میں نوشت و خواند کو مروج کیا حتیٰ کہ ہر خوائہ قیدی سے دس بچوں کو لکھا سکھا دینا، فدیہ مقرر ہوا، ادریس کے بعد آپ نے سلاطین کے نام خطوط روانہ کیے، آگے جس طرح ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل میں ہر دحریز تھے، آنحضرت صحابہ میں محبوب تھے، پھر حضرت یوسف کو اپنے وطن کانوی مصر میں جو اقتدار حاصل ہوا وہی حضور علیہ السلام کو اپنے دور ہجرت مدینہ طیبہ میں چند سالوں کے بعد حاصل ہو گیا، پھر جس طرح حضرت موسیٰ نے وطن فلسطین پر مصر سے حملہ کیا، آنحضرت نے مکہ پر حملہ کیا اور مشرکوں کو اقتدار سے آزاد کرایا۔ ابراہیم علیہ السلام ہانی کعبہ تھے۔ کعبہ پر قبضہ کر کے پھر اس کو ابراہیم کی مسجد بنا دیا اسی پر زندگی ختم ہو گئی (۱۲)

کیوں ہے کہ وہ دوسری سمت میں دور اور اتنی دور کیوں چلا گیا، آخر قدرتی طور پر یہ نہ ہوتا تو ہوتا کیا اور اسی کا نتیجہ تو یہ ہوا کہ جن کو بار بار جاننے کے لیے اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے کہا جاتا تھا، بظاہر ان کی تکذیب میں تیزی پیدا ہوئی، لیکن بہ باطن ان کی تفتیش میں اس دعویٰ نے اور تند ہی پیدا کر دی اور اب امتحانی راہوں میں وہ ایسی باتیں سوچنے لگے جن کے بعد پھر کچھ نہیں سوچا جاتا۔

حضرت ابوطالب اور خدیجہ کی وفات:

وہ ادھر اپنے آخری منصوبے پکارے تھے کہ وقتوں کے ساتھ اس بندگی ہوئی دنیا میں ان دو آدمیوں کا وقت ختم ہو گیا۔

جو جانچا جا رہا تھا اس کے لیے واقعہ کے اعتبار سے کچھ نہ ہوں، لیکن عام بشری قانون کی رو سے ان کو بہت کچھ سمجھا جاتا ہے۔ شکلی شک کرتے تھے کہ ملنے کے وقت یہی دونوں تھام لیتے ہیں۔ ٹوٹنے کے وقت بھی یہ دونوں ڈھارس باندھ دیتے ہیں۔

الغرض حضرت ابوطالب بھی چل بے اور سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون دنیا کی ایمان والیوں کی پیشوا (رضی اللہ عنہا) نے اپنا کام پورا کر کے چھوڑ دیا۔ امتحان کے میدان میں تنہا چھوڑ دیا تاکہ تسلی کے الزام کا یہ شوشہ بھی کٹ جائے، مٹ جائے اور وہ کٹ گیا، مٹ گیا لیکن امتحان دینے والا امتحان کے میدان میں اسی طرح ڈٹا ہوا تھا اور ان تمام حالات کے ساتھ ڈٹا ہوا تھا جو اس پر گزر رہے تھے، گزارے جا رہے تھے۔

لیکن کب تک حبشہ والے حبشہ میں تھے۔ دنیا والے آخرت میں مکہ والوں کے پاس امتحانی مدت کے دس سال سے زیادہ گزر چکے تھے، جانچ کی کون سی شکل تھی جو باقی باقی رہ گئی تھی، بجز اس ایک منصوبے کے جو آخری منصوبہ تھا۔

طائف کی زندگی:

یہ نہیں سنتے شاید دوسرے سنیں۔ یہاں جی نہیں لگتا، شاید وہاں لگے۔ کچھ یہی سوچ کر زیادہ دور نہیں بلکہ امراء مکہ کے گرمائی اسٹیشن طائف کا خیال آیا۔ زید بن حارثہ آزاد غلام کے سوا ساتھ بھی کوئی نہ تھا، حجاز کی سب سے بڑی دولت مند عورت خود بھی جا چکی تھیں اور جو کچھ

ان کا تھا ان ہی راہوں میں جن پر وہ صرف ہو رہا تھا صرف ہو چکا تھا سب کچھ جا چکا تھا اتنا بھی باقی نہ تھا کہ طائف تک کے لیے کوئی سوار ہی کرایہ پر کر لی جائے۔ معمولی دو چیلوں کے سوا پائے مبارک کے لیے راستہ کو آسان کرنے والی کوئی چیز نہ تھی اسی حال میں پہنچتے پہنچتے ہی اونچی دکانوں والوں کے پاس آئے جس لیے آئے تھے اس کا اظہار کیا گیا۔ پھر تمام تجربوں میں یہ آخری تجربہ تھا کہ جس کسی کے پاس گئے اس نے پلٹایا جس سے بولے اس نے جھڑکا حالانکہ کم از کم اجنبی لوگوں کا سلوک ابتدا آپ کے ساتھ کبھی ایسا نہ تھا اور نہ وہ آواز پیغمبر کے نعروں کے ہوتے ہوئے ابتدائی فطرت بشری ایسا کر سکتی ہے مگر یہاں بھی دکھایا جا رہا ہے اور عجب شانوں کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے جنہیں کچھ نہیں آتا تھا ان کی زبانوں پر منطق جاری ہوئی۔

جسے سفر کے لیے ایک گدھا بھی میسر نہیں کیا خدا کو اس کے سوار سول بنانے کے لیے اور کوئی نہیں ملتا تھا؟

ٹوٹے ہوئے دل کے لیے یہ پہلا تیر تھا جو امارت کے نشہ میں چور ایک امیر کی زبان سے نکلا۔

”ردائے کعبہ تار ہو جائے اگر خدا نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔“

کعبہ کی عظمت جس کی نگاہ میں ان بتوں کے ساتھ وابستہ تھی جو مختلف قبائل کی خدائی کے نام سے وہاں رکھے گئے اور اس کے خیال میں ان ہی بتوں نے سارے عرب کو کعبہ کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ اس نے اپنا یہ سیاسی نظریہ پیش کیا۔

تم اگر رسول ہو تو میں اس کا مستحق نہیں ہوں کہ تم سے بولوں اور اگر نہیں ہو تو میری ذلت ہے کہ کسی جھوٹے سے بولوں۔“

یہ ان میں سے تیسرے کی منطق تھی جو سب کے لیے تھا اور سب کے لیے قیامت تک کے لیے ہے کیسا دردناک نظارہ ہے۔ اسی کو سب واپس کر رہے تھے۔ تیز و تلخ جملوں کے ساتھ واپس کر رہے تھے۔ بات اسی پر ختم نہیں ہوگی کہ انہوں نے جو پیش ہوا تھا۔ اس کو صرف رد کر دیا بلکہ آگ^{۳۹} میں پھاندنے والوں کی جو کمریں پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا تھا وہی کمر

۳۹ (بخاری و مسلم کی اس مشہور حدیث کا ترجمہ جس میں آنحضرت نے فرمایا و مثلکُم انا اخذ بجمعکم

من النار) میری مثال تمہارے ساتھ ایسی ہے کہ میں تم لوگوں کی کمریں پکڑ کر آگ سے کھینچ رہا ہوں)

کے بل گرایا جاتا تھا۔ پھر مار مار کر گرایا جاتا تھا۔ گھٹنے چور ہو گئے پنڈلیاں گھائل ہو گئیں، کپڑے لال ہو گئے، معصوم خون سے لال ہو گئے، نو عمر رفیق نے سڑک سے بے ہوشی کی حالت میں جس طرح بن پڑا اٹھایا، پانی کے کسی گڑھے کے کنارے لایا، جوتیاں اتارنی چاہیں تو خون کے گوندے وہ تلوے کے ساتھ اس طرح چپک گئی تھیں کہ ان کا چھڑانا دشوار تھا۔ اور کیا کیا گزری، کہاں تک اس کی تفصیل کی جائے، خلاصہ یہ ہے کہ طائف کے میں وہ پیش آیا جو کبھی نہیں پیش آیا۔

لیکن کیا طائف کی بات صرف اسی پر ختم ہو جاتی ہے، سڑک مڑ رہی تھی، لیکن لوگوں نے راستہ کو سیدھا خیال کیا، چوراہے پر کھڑے تھے لیکن کوئی نہیں ٹھٹکا حالانکہ بخاری میں سب سے بڑی مصیبت کے سوال میں جب یہ ذاتی اقرار موجود تھا۔

كَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيَتْ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقْبَةِ سَبَّ سَبَّ زِيَادَةَ سَخْتِ اذْيْتِ اِن سَبَّ (نہ ماننے والوں) سے مجھے اس گھائی میں طائف کے دن پہنچی۔

اِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلٰى ابْنِ عَبْدِ يَالْتَلِ

جس دن میں نے عبد یالیل کے بیٹے پر اپنے کو پیش کیا تھا۔

تو لوگوں نے احد اور احد کے پہاڑوں کو کیوں یاد کیا، لیکن جو احد کے مقابلہ میں طائف کو یاد کرتا تھا اس کو سب بھول گئے پوچھا بھی گیا تھا۔

هَلْ اَتَى عَلَيْكَ يَوْمَ كَانَ اَشَدَّ عَلَيْكُمْ مِنْ اُحُدٍ كَمَا اَبَّ اَبَّ زِيَادَةَ سَخْتِ

دن آیا؟

اسی کے جواب میں جس پر گزری اس نے طائف پیش کیا، تو جن پر نہیں گزری اب ان سے کیا پوچھا جائے۔

۴۰ (جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ طائف امراء مکہ کا گرمائی مستقر تھا ان کے باغ باغ میں بنگلے یہاں بکثرت بنے ہوئے تھے واپسی کے وقت آنحضرتؐ جس باغ میں ٹھہر گئے تھے یہ عقبہ دربیعہ قریش کے دوریسوں کا باغ تھا، بنگلے سے ان کی نظر حضور پر پڑی گو دشمن تھے لیکن عرب اور قریش تھے دل نہ مانا۔ اپنے عیسائی غلام عداس کی معرفت ایک پلیٹ میں انگور کے چند خوشے انہوں نے حضور کے پاس بھیجے، قبول فرمایا گیا اور بسم اللہ کر کے تناول فرمانا شروع کیا، عداس کو آپ کی بسم اللہ پر حیرت ہوئی۔ پوچھنے پر آنحضرتؐ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، عداس یہ سن کر قدموں پر گر کر بوسے دینے لگا۔



اور واقعہ بھی یہی ہے کہ ٹھیک جس طرح ابی طالب کی گھائی میں جو ایک طرف سے دبایا گیا تو دوسری سمت وہ بلند ہوا اور اتنا بلند ہوا کہ ارض و سموات، سفلیات و علویات مریات غیر مریات، حتیٰ کہ جس پر سب ختم ہوتے ہیں، منتہی کا یہ سدرہ بھی اسی کے احاطہ میں آ گیا۔ بجنسہ کچھ اسی طرح طائف کی گھائی میں جو واپس کیا گیا اور اس طرح واپس کیا گیا کہ جن سے ملتے وہی پھٹتا جس سے چمٹتے وہی سمٹتا، جس کو ہلاتے وہی دردراتا، جس سے جوڑتے وہی توڑتا، انکار کی یہ آخری حد تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ سے نکل رہا ہے جو ہے رد کر رہا ہے۔

اگر یہ ہو رہا تھا اور دن کی روشنی میں ہو رہا تھا تو کیوں نہ سمجھا گیا کہ جس قدرت کے ہر منفی قانون کی انتہا مثبت پر ہوتی ہے جس کے ہر عمل کی تان رد عمل پر ٹوٹی ہے ”عمل در عمل“ کی گتھیوں میں کھتی ہوئی اس دنیا میں جب یہ واقعہ یوں ہی ہو رہا تھا تو بلاشبہ صفا کے دامن سے جس انکار کی ابتداء ہوئی تھی، طائف کی اس گھائی میں اس کی انتہا ہو گئی۔

جو رد کیا گیا، قبول کیا جائے گا، جو ہکایا گیا، بلایا جائے گا، جو گرایا گیا، اٹھایا جائے گا، عقل کا مقتضی تھا کہ ایسا ہوتا اور شاید کہ ایسا ہی ہوا، مگر اس دنیا کی ریت یہی ہے کہ مسبب ہمیشہ سبب کے رنگ میں آتا ہے۔ اصل نقل کے بھیس میں آتا ہے، کس قدر عجیب ہے امتحان و ابتلاء کی اس طویل مکی زندگی میں ”پڑ رہی تھی اور جھیل رہا تھا“ اس نظارہ کے سوا اور کوئی تماشا کبھی پیش نہیں ہوا، لیکن جب مکہ کے ان ہی واقعات کا تکملہ طائف میں ہوتا ہے تو دیکھو جو شروع ہوا تھا وہ اپنے انتہائی نقطہ پر پہنچ کر ختم ہو گیا۔

طائف سے واپسی:

زیڈ نے تو شہر سے باہر نکال کر خون سے لتھڑے ہوئے جسم کو دھودھا کر صاف کیا۔ سامنے کے ایک باغ میں کچھ آرام لینے کے لیے پہنچایا۔ جہاں زخموں سے خستہ و بے جان بھوک اور پیاس سے نڈھال، پردیسی مسافر کی مہمان نوازی انگور کے چند خوشوں سے کی گئی، جس سے دل ٹھکانے تو کیا ہوتا، لیکن صلاحیت پیدا ہو گئی کہ قدم اٹھا سکیں لیکن قرن الثعلب کے موڑ تک پہنچے تھے کہ ناتوانی نے بٹھا دیا۔ سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور وہی جو انکار کے عمل کو آخری

حد پر پہنچا کہ اب رد عمل کا آغاز کرنا چاہتا تھا، دس بارہ سال کی خاموش زبان میں جنبش پیدا کرتا ہے۔ جو بندھی کھل گئی، طوفان امنڈ پڑا، اس وقت وہاں کون تھا جو سنتا کہ کیا اہل رہا ہے تاہم غالباً زید ہی کے ذریعے سے چند الفاظ حافظوں میں اب تک باقی ہیں سال ہا سال کے صبر و سکون کی چٹان پھوٹی اور اس سے یہ فوارہ چھوٹنے لگا۔

”میرے اللہ! تیرے پاس اپنی بے زوری کا شکوہ کرتا ہوں، تیرے آگے اپنے وسائل و ذرائع کی کمی کا گلہ کرتا ہوں، دیکھ! انسانوں میں میں ہلکا کیا گیا، لوگوں میں یہ میری کیسی سبکی ہو رہی ہے، اے سارے مہربانوں میں سب سے مہربان مالک میری سن! میرا زور میرا رب تو ہی ہے مجھے تو کن کے سپرد کرتا ہے، جو ہم سے دور ہوتے ہیں مجھے ان سے نزدیک کرتا ہے یا تو نے مجھ کو میرے سارے معاملات کو دشمنوں کے قابو میں دے دیا؟ پھر بھی اگر مجھ پر تیرا غصہ نہیں ہے تو مجھے ان باتوں کی کیا پروا، مگر کچھ بھی ہو میری سمائی تیری عافیت ہی کی گود میں ہے، تیرے چہرے کی وہ جگمگاہٹ، جس سے اندھیریاں روشنی بن جاتی ہیں۔ میں اسی نور کی پناہ میں آتا ہوں کہ اسی سے دنیا و آخرت کا سدھار ہے، مجھ پر تیرا غصہ بھڑکے اس سے پناہ مانگتا ہوں، مجھ پر تیرا غضب ٹوٹے اس سے تیرے ساپہ میں آتا ہوں، منانا ہے، اس وقت تک منانا ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ قابو ہے، نہ زور ہے، مگر علی و عظیم اللہ ہی ہے۔

یہ چند قطرات ہیں جو اس دن کی موجوں سے محفوظ رہ گئے ہیں ورنہ کون جانتا ہے کہ کیا کیا کہا گیا! کہلوایا گیا؟ پانچوں وقت بندہ ورب میں جب مکالمہ و مناجات کے دروازے کھولے جاتے ہیں جس افتتاحی کلام سے اس کا آغاز ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے یا کہلوایا گیا ہے۔

پس سچ وہی ہے جسے کہتا آ رہا ہوں کہ منفی قانون ختم ہو چکا تھا، طائف کی گھاٹیوں میں ختم ہو چکا تھا اور قطعاً ختم ہو چکا تھا کہ اس کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا۔ اندر باہر آ گیا، پوری طاقت سے آیا، ہر شکل میں آیا، ہر صورت میں آیا، ذکر بھی دیکھا گیا اور پورے طور پر دیکھا گیا۔ لے کر بھی جانچا گیا اور جی بھر کے جانچا گیا۔

۱۱ (سورۃ فاتحہ جو ایک درخواست کے رنگ میں ہے اور نمازی اسی سے نماز کو شروع کرتا ہے پھر اس درخواست کے جواب میں قرآن کا کوئی حصہ سنایا جاتا ہے یعنی تم نے ”صراط مستقیم“ کی ہدایت کی جو درخواست کی تھی تو قرآن تمہیں وہ سیدھی راہ بتا رہا ہے، بہر حال مقصود یہ ہے کہ حالانکہ دعا ہم کرتے ہیں لیکن اس دعا اور درخواست کی تدوین خود حق تعالیٰ نے فرمائی (۱۲)

سال دو سال نہیں ایک جگہ ایک قرن سے زیادہ موقعہ دیا گیا، تاکہ ٹھونکنے والے ٹھونک لیں، بجانے والے بجالیں، کسنے والے کس لیں، تانے والے تالیں، آزمائش کی کون سی بھٹی تھی جس میں قدرت کے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا یہ زر خالص نہیں ڈالا گیا۔ حرارت کا کون سا درجہ ہے جو اس کے غیر معمولی لاہوتی حقیقت کو نہیں پہنچایا گیا، جو کچھ کر سکتے تھے سب کچھ کر لیا گیا جس کے آگے کیا کچھ اور بھی سوچا جاسکتا ہے؟ جنہیں تم نے مکی زندگی کے ان سالوں میں مسلسل تابوتِ پیہم ”صدق و دیانت“ کے اس بے نظیر سرچشمہ کے ساتھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شہادتیں تام ہو گئیں گواہیاں پوری ہو چکیں، تجربات مکمل طور پر مہیا ہو چکے، مشاہدات اکٹھے ہو چکے، الغرض عالم امکان میں جو کچھ ہو سکتا تھا سب ہو گیا۔ منفی قوانین اپنے سارے حقوق لے کر اپنے حدود کے آخری بالکل آخری نقطہ پر پہنچ کر ختم ہو چکے تھے۔

یقیناً وہی وقت آ گیا تھا اور اب نہ آتا تو کب آتا کہ واقعات کے دوسرے رخ کا آغاز ہو۔ پس وہی جس سے ہر چیز الگ کی گئی، کائنات کا ہر ذرہ جس سے ٹکرایا اور پوری شدت سے ٹکرایا اتنی شدت سے ٹکرایا کہ صبر سکون کے پہاڑ سب سے بڑے پہاڑ میں بھی جنبش پیدا ہوئی۔ انتظار کرو کہ اب اسی کے ساتھ ہر چیز لپٹے جس سے بھاگے تھے اسی کی طرف سب دوڑنے، جس سے جدا ہوئے، اسی سے آکر ملیں، جس سے سب ٹوٹے، اسی سے اب سب جنے جس سے سب پھٹے، اسی سے سب چمٹیں۔ جنہوں نے دردرایا، وہی اب اس کو پکاریں اور بے کسی کے ساتھ پکاریں، جس سے سب بھنچے تھے اب اسی کی طرف ہاں! اسی کی طرف سب کھنچیں، پوری طاقت کے ساتھ کھنچیں، زمین کھنچے، آسمان کھنچے، فلک کھنچے، ملک کھنچے، جن کھنچیں، اِس کھنچے، الغرض جو چیزیں کھنچ سکتی ہیں، سب کھنچیں اور دیکھو! کیا یہی نہیں ہو رہا ہے۔ شاعری نہیں واقعہ ہو رہا ہے۔ میں نہیں امام بخاری کہہ رہے ہیں۔

جبرئیل امین کا ظہور طائف کی راہ میں:

جو زمین پر چھوڑا گیا تھا اور ہر طرف سے چھوڑا گیا تھا، اسی کے مبارک قدموں سے سب کو جوڑنے کے لیے ملاءِ اعلیٰ کے میں جنبش ہوتی ہے، سلسلہء ملکوت کے ارتقائی نقاط کا آخری نقطہ ”الجبرئیل الامین“ کو دکھایا گیا کہ وہ پکار رہے ہیں؟

سن لیا! ” اللہ نے سن لیا“ آپ کے لوگوں نے جو کچھ آپ کو کہا۔

پھر اسی سے جس کو سب نے لوٹایا تھا، خطاب کیا گیا۔“

” اور جنہوں نے آپ کو رد کیا اور پھینکا وہ بھی اللہ سے غائب نہ تھے۔“

اس کے بعد جو ہلکا کیا گیا تھا اور جو اپنی سبکی کے دکھ سے چند منٹ پہلے کراہا تھا سو انہی علی الناس^{۳۳} کے ساتھ رویا تھا، دیکھو کہ اس کو وزن بخشا جاتا ہے، کیا پتھر کے باٹوں کے برابر کیا گیا؟ پہاڑوں سے تو لا گیا؟ ہمالیہ، ارال، البرز، آپس کے مساوی ٹھہرایا گیا؟ عمل کا صحیح رد عمل کیا ہوتا اگر اسی پر بس کیا جاتا جو سب پر ہلکا تھا۔ جب تک سب پر بھاری نہ کیا جاتا کیسے کہا جاتا کہ عمل کا رد عمل ہو گیا۔

جبرئیل امین نے عرض کیا ”قَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلِكَ الْجِبَالِ“ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس

پہاڑوں کو نہیں بلکہ پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے۔

جس سے سب لیا گیا تھا، اب اس کو سب دیا جاتا ہے اور کس ترتیب سے دیا جاتا ہے

غیب میں بھی ملاء ادنیٰ^{۳۴} سے پہلے ملاء اعلیٰ کا وہ قدوسی وجود^{۳۵} جو روحانیوں کا سردار ہے اور

شاید جو دائرہ ملکوت کا نقطہ پرکار ہے، وہ دیا جاتا ہے اس کے بعد ملاء ادنیٰ کے فرشتے ملک

الجبال کی تسخیر کی بشارت سنائی جاتی ہے اور کیسی تسخیر جبرئیل امین عرض کرتے ہیں۔

”یہ پہاڑ کا فرشتہ ہے آپ جو حکم دیجیے اس کو حکم دیجیے وہ بجالائے گا۔“

پہاڑ کا فرشتہ حوالہ کر دیا گیا جس کے سلام کے جواب میں بازار طائف کے چھپھورے

تک پتھر پھینکتے تھے رد عمل کی پوری قوت کا اندازہ کرو۔ خود فرماتے ہیں ”اس پہاڑ کے فرشتے

نے مجھے سلام کیا۔“ سلام عرض کر کے جو مسخر کیا گیا تھا فرمان طلب کرتا ہے ”یا محمد ذالک

لک“ (اے محمد آپ کو پورا اختیار ہے)

نس امر کا اختیار ہے، اف جنہوں نے سنگریزوں سے مارا تھا، پہاڑ کا فرشتہ اجازت طلب

کرتا ہے۔

۳۳ (آنحضرت کی دعا جس کا ترجمہ درج کیا گیا ہے اسی کا یہ حصہ ہے یعنی حضور نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اس

سب کی شکایت فرمائی تھی جو اس وقت لوگوں میں آپ کی ہو رہی تھی ”لوگوں پر سبک ہونا“ اس کا ترجمہ ہے (۱۲)

۳۴ (عالم غیب کے تحتانی طبقہ کو ملاء ادنیٰ کہتے ہیں)

۳۵ (یعنی جبرئیل امین تفصیل کے لیے دیکھو میری کتاب ”الملکوت والشمال“)

کیا ان پر طائف کے ان پتھر مارنے والوں پر ان دونوں پہاڑوں کو جن سے طائف محصور ہے، الٹ دوں؟

جس کو ذرائع و وسائل کی قلت کا گلہ تھا، اس کے ساز و سامان کی فراوانی کا اندازہ کرو! یہ بخاری میں کہا ہے؟ جس کے گھٹنے توڑے گئے، ٹخنے چورے گئے، اب اس کے قابو میں کیا نہیں ہے اور جو اختیار دیا گیا، کیا وہ پھر چھینا گیا۔

اس کے بعد اگر میں کبھی کہتا ہوں کہ احد میں دانت ٹوٹے نہیں بلکہ تڑوائے گئے، چہرہ مبارک زخمی ہوا نہیں بلکہ زخمی کرایا گیا، خندق میں پیٹ پر پتھر بندھے نہیں بلکہ باندھے گئے۔ الغرض اس کے بعد جو کچھ گزرا میں کیا غلط کہتا ہوں۔ جب لوگوں سے کہتا ہوں کہ گزرے نہیں بلکہ گزارے گئے، مہینوں گھر میں آگ جلی نہیں، بلکہ نہ جلوائی گئی، کھانا پکا نہیں بلکہ نہ پکویا گیا۔

”مجھے مسکین ہی زندہ رکھ! مجھے مسکین ہی مار! اور مسکینوں ہی کے ساتھ اٹھا۔“

کیا اس آرزو کی ہر کلیجہ میں قوت ہے، کس کا جگر ہے جو یہ کہہ سکتا ہے! لیکن جن کو سب کچھ مل جاتا ہے، اپنے لیے نہیں غیروں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ نعمت والے تو اپنی نعمتوں سے خوش ہیں، لیکن مصیبت زدوں کی تسلی تو صرف اسی کی ذات سے ہو سکتی ہے، جس کے پاس سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن صرف اسی لیے کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے آنسو تھمیں۔ اس نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، موطا امام مالک کی اس روایت کا کیا مطلب ہے کہ ”میرے مصائب ہر مسلمان کی تعزیت کریں گے۔“

۶۲؎ کسوچنا چاہیے کہ مصیبت کی کون سی ایسی قسم ہے جو اس وجود اطہر پر نہ گزری، جو دنیا والوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا گیا تھا۔

۶۲ (ماں، باپ، دادا، چچا، بیوی بچے سب آپ کے سامنے بلکہ باپ تو پیدائش سے پہلے آپ سے چھوٹے۔ فاطمہؓ کے سوا تمام لخت ہائے جگر کو خود اپنے ہاتھوں سپرد خاک کیا۔ عزیزوں کی موت کی یہ صورت ہوئی، خود آپ پر جانی و مالی مصائب جو گزرے کسی دوسرے پر اس سے زیادہ کیا گزر سکتے ہیں، آبرو عزت کی مصیبت کے لیے صاحبزادیوں کو طلاق، حضرت زینب کو اونٹ سے گرا کر رسوا کرنا اور واقعہ اٹک پر ان کی انتہا کیا کسی امتی کو ان مصائب کے متعلق یہ خیال کرنے کا حق باقی رہ جاتا ہے کہ یہ خدا کے عتاب کا نتیجہ ہے، کہ حضور کے مصائب اس کی تسلی کے لیے کافی نہیں (۱۲)



ہاں! میں دور نکلا جا رہا ہوں۔ تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جسے پتھر کے ٹکڑوں سے پتھرایا گیا تھا، اسی کو اختیار دیا گیا کہ وہ پہاڑوں سے اس کا جواب دے سکتا ہے اور بہ آسانی دے سکتا ہے، شاید یہ اختیار ان کو بھی نہیں، جو ان پر طیاروں سے گولے گراتے ہیں، جنہوں نے ان کو پھول سے بھی نہیں مارا تھا اور نہ اتنا ان کے بس میں بھی ہے جو ہولٹرز سے من من دو من کے گولے پھینکتے ہیں۔

کتنا جھوٹا غرور ہے، جن کو بم اور شل دیا گیا ہے۔ جب کہتے ہیں کہ ایسا کسی کو نہیں ملا، دیوانو! تم کو کیا ملا جو تم سے پہلوں کو مل چکا ہے اور جو چاہے اسے اب بھی ملتا ہے ہمیشہ ملتا رہے گا۔ لیکن تم نے جو کیا اور کر رہے ہو اسے دنیا دیکھ رہی ہے اب دیکھو! جس کو جبال ملے، ملک الجبال ملا وہ اپنی اس قوت سے کیا کام لیتا ہے، جنہوں نے اس کو ہلکا کیا تھا، کیا ان پر ان کی زندگی کو وہ بھاری کرے گا، چاہتا تو یہ کر سکتا تھا اور اس کو حق تھا کہ جنہوں نے اس پر پتھراؤ کیا تھا ان کو سنگسار کرنے، اس نے طائف سے نکل کر جو کچھ کہا تھا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا تھا، لیکن جنہوں نے اس کے ساتھ وہ سب کیا تھا جو وہ کر سکتے تھے شاید تم نے غور نہیں کیا اس میں جو کچھ ہے وہ اپنے لیے نہیں کہا تھا۔

پھر غور کرو! ان کے متعلق اس نے کچھ بھی کہا، جس قدر وہ نزدیک تھا اتنی نزدیکی جنہیں حاصل نہ تھی، جب ان کی آرزو نے نوح کا طوفان برپا کیا تو ان میں جو سب سے اونچا تھا، سمجھ سکتے ہو کہ وہ کیا کچھ نہ برپا کر سکا تھا اور اب کس بات کی کمی تھی جو چاہے اب وہ کر سکتا تھا لیکن اسی تاریخ نے، جس نے نوح کے طوفان، عاد کی آندھی، ثمود کے صیحہ، شعیب کے رھہ، موسیٰ کے دریا کے واقعات کو محفوظ رکھا ہے اس نے ریکاڈ کیا کہ پہاڑ کے فرشتے سے فرمایا جا رہا ہے۔

”میں مایوس نہیں ہوں کہ ان کی پشت سے ایسی نسلیں نکلیں جو اللہ ہی کی پوجا کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک اور سا جھی نہ بنائیں۔“

پہاڑ پانی ہو گیا، اس آواز نے آگ کو باغ بنا دیا جو مر رہے تھے جی گئے۔ جو ختم ہو گئے تھے پھر شروع ہو گئے اور رد عمل کے سلسلہ میں جو پیش آنے والا تھا، اس کا پہلا نقش یہ تھا (صلی اللہ علیہ وسلم) خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی اور جو عالمین کے لیے پیار لے کر آیا تھا، اس کی زندگی

میں اس واقعہ کی کوئی قدرت نہیں ہے، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ جس سے لیا گیا تھا۔ جب رد عمل میں اس کو دیا جانے لگا تو کس عجیب ترتیب سے دیا گیا، شہادت و محسوس سے پہلے غیب عطا ہوا۔ غیب میں پہلے ملاء اعلیٰ پر قابو دیا گیا۔ ملاء اعلیٰ کے بعد ملاء ادنیٰ پر قبضہ کرایا گیا۔ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے۔ عقل کے لیے یہ باور کرانا آسان ہے کہ غیب اور نامحسوس سے تڑپ کر یکا یک یہ ترتیب محسوس اور عالم شہادت میں آجائے؟ اگر ایسا ہوگا تو ابھی غیب کی اور بہت سی غیر مرئی ہستیاں، ایسی ہستیاں جنہیں گو سب نہیں دیکھتے لیکن سب میں ان کے دیکھنے والے موجود ہیں، کیا وہ اس کے قابو سے باہر رہ جائیں گی جس کو سب پر قبضہ عطا کیا گیا ہے! ”مالکم کیف تحکمون“ جنوں سے ملاقات اور بیعت:

نہ کہا جاتا تو سوچا جاتا، سمجھا جاتا، مانا جاتا، لیکن جب کہا گیا اور صحیح روایتوں میں یقین کے ساتھ کہا گیا کہ تسخیر کا یہ سلسلہ اسی ترتیب کے ساتھ غیب سے شہادت کی طرف بڑھا اور شہادت تک تسخیری آثار اس عالم کی چیزوں سے گزر کر پہنچے، جن کو ان دونوں دنیاؤں کے درمیان برزخی واسطہ کی حیثیت حاصل ہے تو کیا عقل بھی اسی ترتیب کو نہیں ڈھونڈتی ہے۔ لوگوں نے بے پروائی کے ساتھ کیوں سنا۔ جب ان کو یہی سنایا گیا، صحیح حدیثوں میں ہے کہ ملک الجبال کے واقعہ کے بعد ہی نخلہ کے نخلستان میں اس برزخی تسخیر کا ظہور ہوا، اور ٹھیک ایسے وقت میں ظہور ہوا جو رات کی تاریکی کو دن کی روشنی سے ملانے میں واسطہ اور برزخ کا کام دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ صبح کا وقت تھا، کھجوروں کے جھنڈ میں فجر کی نماز کا قرآن گونج رہا تھا عین اس وقت

صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ

”ہم نے تیری طرف جنوں کا ایک ٹولی پھیری تاکہ وہ قرآن سنیں، وہ چیخنے لگے۔“

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ

ہم نے پڑھنے کی ایک عجیب چیز سنی جو سوجھ کی راہ بتاتی ہے۔

اور ٹھیک جس طرح کچھ نہیں ہوتا، لیکن شمع کے روشن ہونے کے ساتھ ہی بھانت بھانت کے کتنے کچھ پروانے جو نامحسوس تھے، محسوس ہونے لگتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کی روشنی پر گرے اور پروانوں ہی کی طرح قربان ہو گئے۔ جنوں میں آواز بلند ہوئی۔

امنا بہ

(ہم نے اس کو مان لیا)

اور قبل اس کے کہ ”ویدوں“ کی طرح تبلیغی مہم روانہ ہو ”نادیدوں“ کا یہ گروہ ان ہی نامحسوس علاقوں کی طرف تبلیغی مہم کے پہلے دستہ کی حیثیت سے روانہ ہو گیا۔ بہر حال مجھے تو اس وقت یہ دکھانا تھا کہ عمل کے بعد رد عمل کا سلسلہ کتنی استوار و محکم ترتیب کے ساتھ آگے بڑھا ہے۔ نخلہ کے جنوں کا واقعہ اگر بے چارے محدثین ہم تک نہ پہنچاتے، ان کے خوف سے نہ پہنچاتے جن میں جنوں ہی کا ایک جنی^{۲۸} انکار کا جنون پیدا کرتا ہے تو خیال کر سکتے ہو کہ ملاء اعلیٰ سے ملاء ادنیٰ پر آ کر ہم غیبی وجود کے اس طبقہ سے یکا یک چھلانگ مار کر شہادت اور عالم محسوس میں کس طرح چلے آتے، واقعہ نہ بھی ہوتا تو عقل کا اقتضا تھا کہ اس کو ہونا چاہیے تھا، ارتقاء کی کڑیوں میں اگر کوئی کڑی نہیں بھی ملتی ہے تو ایمان لایا جاتا ہے کہ وہ ہوگی؟ بے جان مان لیا جاتا ہے کہ وہ تھی اور ضرور تھی، پھر اگر ہم نے ان کو جان کر مانا، اور قرآن کی قطعی روشنی، حدیث کی صحیح راہ نمائی میں مانا تو دیوانوں کو اکسائیے کر ابلہوں کا گروہ ہم پر کیوں ہنساتا ہے۔

مدینہ والوں سے پہلی ملاقات:

الغرض نخلہ کے نخلستان میں غیب کی آخری حد بھی ختم ہو گئی اب شہادت و محسوس کی سرحد شروع ہوتی ہے۔

مکہ معظمہ سے یہ گاؤں ایک رات کے فاصلہ پر واقع تھا، صبح ہو چکی تھی، دن نکلے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، جس وقت مکہ کے قریب منیٰ کے میدانوں میں پہنچتے ہیں، قدرت اپنی عجیب کار فرمائیوں کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، یہی منیٰ تھا، یہی حج کے مراسم تھے، کتنے موسم آئے اور کتنے گئے، جب سے پھٹ کر پکارنے کا حکم ہوا تھا، اس دن سے شاید ہی کوئی موسم گزرا ہو جس میں لوگوں نے قبائل کے خیموں کے آگے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلِحُوا

”لوگو! بولو! اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہا مراد ہو جاؤ گے۔“

۲۸ (قرآن میں ”ابلیس“ کے متعلق ”کان من الجن“ (وہ جنوں میں سے تھا) مذکور ہے ۱۲)

پکارنے والے کو پکارتا ہوا نہ دیکھا تھا اور جہاں یہ دیکھتے تھے وہیں سب کے سامنے یہ بھی ہو رہا تھا کہ جس کی طرف لپکا جاتا تھا وہی بھاگا جاتا تھا، جس کو بلایا جاتا تھا وہی کتراتا جاتا تھا اور صرف یہی نہیں بلکہ اس منفی عمل کا یہ حال تھا کہ جس کو جوڑا جاتا تھا وہ خود بھی ٹوٹتا اور دوسروں کو بھی پوری قوت سے توڑتا جاتا تھا، ایک بار نہیں بلکہ شاید ہر بار جب پکار بلند ہوتی جس کا ذکر ہوا تو اسی کے ساتھ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَسْمِعُوا مِنْهُ فَاِنَّمَا يَدْعُوَكُمْ أَنْ تَسْلِيحُوا اللَّاتِ وَالْعِزَّى
مِنْ أَعْنَاقِكُمْ وَخُلْفَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ.

”لوگو! اس کی نہ سننا، یہ تمہیں ادھر بلاتا ہے کہ لات اور عزی اور ان بھوتوں کی اطاعت کا طوق اپنی گردنوں سے توڑ کر پھینک دو جو تمہارے دوست ہیں۔“
کا غوغا مچاتے ہوئے ابولہب پتھروں سے مارتا اور اتنا مارتا کہ

حَتَّى أَدْمِي كَعْبَهُ

”ٹخنے خون آلود ہو جاتے۔“

مگر یہ منفی عمل کی گھڑیوں کا تماشا تھا، اب اسی عمل کا رد مثبت شکل میں شروع ہو چکا تھا، غیب اور اس کے سارے مدارجِ تسخیری قوت کے آگے جھک چکے تھے اور اب محسوس و شہادت کی حد شروع ہوتی ہے، پھر دیکھو، غیب میں جس طرح سب سے پہلے وہ دیا گیا تھا جو سب سے بڑا تھا۔ شہادت میں بھی اس کے قدموں پر سب سے پہلے جو گرے یا گرائے جاتے ہیں ان کا تعلق جمادات و نباتات یا حیوانات سے نہیں بلکہ ان سے ہے جو ان سب میں بڑا گنا گیا۔

انصارِ مدینہ کی پہلی ملاقات:

رات کا وقت ہے، چاند کی روشنی میں اونٹوں کے درمیان قبائل کے خیمے چمک رہے ہیں۔ پچھلے موسموں میں تقریباً ان میں سے ہر ایک نے جس کو دھکیلا تھا وہی رد عمل کے ساتھ اب ان میں آتا ہے۔ کسی بڑے مجمع کی طرف نہیں بلکہ دس یا دس آدمیوں سے بھی کم کی ایک ٹولی پر نظر پڑتی ہے، قریب آتے ہیں، پوچھا جاتا ہے، مَنْ أَنْتُمْ؟ (تم لوگ کون ہو؟)



ٹولی والوں میں سے ایک کہتا ہے مِنَ الْخَزْرَجِ خَزْرَجِ قَبِيلَهُ کے لوگ ہیں۔
 ”کیا تم بیٹھ سکتے ہو؟ تم سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں؟“ ہاں! کیوں نہیں جواب ملتا ہے
 ”کیا اللہ کی طرف آتے ہو؟ اللہ کے سامنے جھکتے ہو؟“

دس گیارہ سال تک اسی میدان میں اسی موسم میں کیا کچھ نہیں کہا گیا، کیا کچھ نہیں کیا
 گیا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اسی میدان میں اسی موسم میں اسی ہوا میں اسی فضاء میں آج چند لمحہ میں
 یہ چند الفاظ زبان سے نکلتے ہیں پھر دیکھئے جس پر جس کے قدموں پر غیب گر چکا تھا ان ہی
 قدموں پر شہادت والے آج گرتے ہیں اور اس طرح گرتے ہیں کہ پھر کبھی نہیں اٹھیں گے۔

انہوں نے باہم ایک دوسرے سے کچھ کہا ایک لمحہ یہ تھا اور دوسرا لمحہ یہ تھا کہ جس کو سب
 نے لوٹایا تھا اس کے آگے یہی ٹولی لوٹ رہی تھی جو کچھ کہا جا رہا تھا، دہرا رہی تھی، خدا را بتاؤ کہ
 اگر یہ صرف عمل کا رد عمل نہیں ہے تو اور کیا ہے دس سال تک مکہ والوں نے کیوں نہیں مانا اور
 دس منٹ بلکہ اس سے بھی کم مدت میں ان لوگوں نے کیوں مان لیا، کس کے بس میں ہے جو
 اسباب کی روشنی میں اس عقدہ کی گرہ کھول سکتا ہے، مکہ والوں میں کیا نہیں تھا جو ان میں تھا،
 غریب یہ تھے تو کیا وہ امیر تھے؟ باہمی خانہ جنگیوں سے یہ برباد تھے تو کیا وہ آباد تھے؟ بہر حال
 یہ چھ آدمی تھے ان کا گھر وہاں تھا، جس کا زمین کے چالیس پچاس یا ساٹھ ستر کروڑ دلوں میں
 آج گھر ہے اور کیسا مضبوط اور کیسا مستحکم گھر ہے (نَوْرَهَا اللّٰهُ تَعَالٰی وَحَمَاهَا)

نصرت و امداد کی آواز ان ہی کی زبانوں کی پہلی آواز تھی جو بغض و عداوت کے وہ سالہ
 مسلسل شور و ہنگامے کے بعد ان چھ آدمیوں کے دل سے نکلی ہے تاریخ نے اس کو نوٹ کر لیا
 اور ابد تک کے لیے جریدہ عالم پر ان کا نام انصار ثبت کر دیا گیا۔

الغرض جو حرکت غیب میں پیدا ہوئی تھی آج شہادت میں آگئی۔ اب یہ بڑھے گی،
 چڑھے گی، چڑھتی چلی جائے گی اس کے نیچے انجان بھی آئیں گے۔ حیوان بھی آئیں گے۔
 جمادات بھی آئیں گے الغرض وہ سب آئیں گے جو آسکتے ہیں اور قطعاً آئیں گے، مگر جو
 آگے تھے وہ پیچھے ہوں اور جو پیچھے ہیں وہ آگے ہوں۔ ذرا اس صف کی ترتیب قائم ہونے دو
 پھر دیکھنا جو کچھ دکھایا جائے اور سننا جو کچھ سنایا جائے!

میں کہتا آ رہا ہوں کہ ماننے سے وہ گریز نہیں کرتا جس نے جان لیا۔ جس ہوا میں خوشبو بس چکی ہے اس کے سونگھنے کے بعد کوئی اس خوشبو کے ماننے سے انکار کر سکتا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ کسی میں سونگھنے کی قوت ہی نہ ہو لیکن جس کا شامہ ماؤف نہیں ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس ہوا میں خوشبو نہیں ہے یا وہ بدبو ہے؟

پھر جس میں ”سچائی“ کے احساس کا حاسہ موجود ہے جب ”سچ“ کو اس کا یہ حاسہ نکل چکا اب اس کے بعد اسی سچ کے اگلنے کی کیا صورت ہے جو اپنے اندر بھوک کو پا چکا، کیا ممکن ہے کہ اس کے پانے کو وہ جھٹلائے زبان سے ممکن ہے لیکن دل سے کیسے جھٹلا سکتا ہے۔

پھر جب مکہ والوں نے جس کو دیکھا، اس وقت جس کو دیکھا، اس وقت سے دیکھا، جب وہ ان میں سے بے باپ کا ہوا، بے ماں کا ہوا، انہوں نے اس کو جانا، اس وقت سے جانا، جب شہر کی صبح کو بیاباں میں چوپایوں کے ساتھ گزار کر شام کرتا تھا۔ انہوں نے اس کا تجربہ کیا اور اس وقت سے تجربہ کیا، جب وہ اندر سے صرف امانت کی شعاعیں اور صداقت کی کرنیں ان کے اندر مسلسل جذب کر رہا تھا۔ اس عجیب نظارہ کے وہی گواہ تھے، جب انہی کے آگے مکہ کا سب سے بڑا غریب، حجاز کا سب سے بڑا امیر کر دیا گیا، لیکن ان ہی کے سامنے اس امیر نے (۱) صلہ رحمی ۳۰۔ حمل کل ۳۔ کسب معدوم ۴۔ قری ضیف ۵۔ اعانت علی نواب الحق کے بہتے

۴۹ (اسی کا اتنا سخت اثر تھا کہ قیصر روم کے دربار میں آپ کے سب سے بڑے دشمن ابوسفیان سے جب آپ کی راست بازی کا حال خود قیصر نے پوچھا تو ابوسفیان کا بیان ہے کہ میں جھوٹ بولنا چاہتا تھا لیکن اس خوف سے کہ جو لوگ میرے پیچھے کھڑے ہیں مجھے جھٹلا نہ دیں، جھوٹ نہ بول سکا اور سچ کا اظہار کرنا پڑا کہ اب تک ہم میں سے کسی کو اس سے جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا، واقعہ مفصل بخاری شریف میں ہے۔ یہ بیان اس وقت کا ہے جس وقت قیصر کو نامہ مبارک ملا اس سے پیشتر صفا کی پہاڑی پر جب منادی کی گئی اور مکہ کے قریب ہر خاندان والوں کو پکارا گیا اور پوچھا گیا کہ تمہارا امیرے متعلق کیا خیال ہے تو بالاتفاق آواز آئی ”مَا جَوْنُنَا عَلَيْكَ اِلَّا صِدْقًا“ ہم لوگوں کو تمہارے متعلق سچائی کے سوا کسی اور بات کا کوئی تجربہ نہیں ہے (۱۲)

۵۰ (یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے اس ربوہ سے ماخوذ ہے جس کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے کہ جب آپ غار حرا سے پہلی وحی کے بعد گھر آئے اور گھبراہٹ کا اظہار فرمایا اس وقت آپ کی پندرہ سالہ زندگی کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو رپورٹ کی اس کے الفاظ یہ تھے صلہ رحمی کے معنی ظاہر ہیں۔ ”حمل کل“ کے معنی بوجھ اٹھانا، یعنی تیسوں غریبوں بے کسوں کا بار اٹھاتے تھے۔

کسب معدوم کے معنی میں محدثین کا اختلاف ہے میرے خیال میں اس کا ترجمہ بے کاروں کو کار کرانا۔ بے روزگاروں کو روزگار سے لگا دینا ہے ”قری ضیف“ کے معنی مہمان نوازی اِعْتَقْتُ عَلٰی مَصَدِّقِ الْحَقِّ وَاَقْبٰی مَصَائِبِ مِثْلِ اِمْدَادِ دِيْنًا (۱۲)

ہوئے دھاروں میں سب کچھ بہا کر اپنے کو غریب کر لیا تھا اور ایسا غریب کر لیا تھا کہ ”اس کے پاس سفر کے لیے گدھیا بھی نہیں“ کے ساتھ اس کے ہم عصر امیروں نے ٹھٹھا کیا حالانکہ چاہتا تو اس گنچ سے گنچ اسی طرح گھیٹ سکتا تھا کہ جس طرح اس کے شہر والے بلکہ گھر والے اپنی امارات سے غریبوں کی غربت میں اضافہ کر رہے تھے یا دولت کے اس آئینہ میں بد مستیوں کا تماشا کر رہے تھے ان سب مشاہدات کے بعد انہوں نے حرا کے دعویٰ کی جانچ کے لیے جو کچھ کرنا چاہا کرتے رہے۔ بغیر کسی وقفہ کے دس گیارہ سال تک کرتے رہے انہوں نے دے کر دیکھا، لے کر دیکھا، جن جن شکلوں میں جن جن صورتوں کے ساتھ چاہا بغیر کسی روک ٹوک کے دیکھا۔ رگ رگ کو الگ کر کے دیکھا۔ ریشہ ریشہ کو جدا کر کے دیکھا، اس نے اپنے اندر کو باہر نکال کر سب کے سامنے رکھ دیا تھا وہ اس کو ٹٹولتے رہے، دلتے رہے، مسلتے رہے، گھستے رہے، رگڑتے رہے، مگر تجربات کے اس عریض و طویل سلسلہ کے بعد بھی ان کو ان میں ہر ایک کو اس کے باطن میں کیا ہمیشہ وہی نہیں ملا جو وہ ظاہر کرتا تھا؟ بلاشبہ اس کو دیا گیا تب بھی وہ سچ تھا اور اس سے جب لیا گیا تب بھی وہ سچ ہی تھا۔

یقیناً اس سے زیادہ جانچا نہیں جاسکتا جتنا انہوں نے جانچا، اس سے زیادہ جانا نہیں جاسکتا، جتنا انہوں نے جانا۔

پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ جنہوں نے بعد کو مانا، اس وقت انہوں نے کیوں نہیں مانا۔ آدمی کے دل کی سرشت انسانی قلب کی فطرۃ یہی ہے اور ہمیشہ رہے گی، لیکن اسی کے ساتھ شاید اس پر غور نہیں کیا گیا جو جانتا ہے وہی مانتا ہے۔ پھر جس نے نہ جانا اگر اس نے نہ مانا تو اس نے کس کا انکار کیا؟ بلاشبہ ان کے دلوں نے جانا تھا، پھر اگر ان کی زبانوں نے نہ مانا تو یہ کیسے سمجھ لیا گیا کہ دلوں نے بھی نہ مانا تھا۔

کیا زبان دل ہے! یا دل زبان ہے؟ کاش ایسا ہوتا لیکن دنیا میں پھر ”جھوٹ“ کا گھونسلا کہاں بنے گا۔

”ظلم“ کے نشہ میں جب مخمور ہو ”علو“ کے مواد فاسد ہے جب معمور ہو ماننے والے دل کا جب یہ حال ہوتا ہے تو میرا نہیں دلوں کے بنانے والے کا بیان ہے کہ اس وقت دل مانتا ہے اور زبان انکار کرتی ہے۔

ان کے دلوں نے اس کو مانا تھا، مکہ والوں نے جانا تھا، ان کے دلوں نے اس کو قطعاً مانا تھا مگر جو بڑا ہے اور بڑا ہی رہے گا اور جو چھوٹا ہے اس کے سامنے بڑا اپنی بڑائی سے دست بردار نہیں ہو سکتا۔ ”علو“ اور ”سر بلندی“ کے اس نشہ پر ابھی کوئی ترشی نچوڑی نہیں گئی تھی، اگرچہ قریب ہے کہ نچوڑی جائے پھر اگر بد مستی کے اس عالم میں ان کی زبانیں لٹکھڑا لٹکھڑا کر ان کے دلوں سے ٹکراتی تھیں تو پندار کے متوالوں کو کب اس بد حالی میں نہیں پایا گیا ہے؟

تَنَازِعْنَا نَحْنُ وَبَنُو عَبْدِمَنَافٍ أَطْعَمُوا فَاطْعَمْنَا حَمَلُوا فَحَمَلْنَا أَعْطُوا فَأَعْطَيْنَا
حَتَّى إِذَا تَعَاذَيْنَا عَلَى الرَّكْبِ وَكُنَّا كَفَرِيَّةٍ دِهَانٍ مِنَّا لَبِيَّ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ مِنَ
السَّمَاءِ فَمَتَى نُنْزِرُكَ مِثْلَ هَذَا وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ بِهِ أَبَدًا وَلَا نُصَلِّقُهُ

ہم میں اور عبدمناف کے لڑکوں میں مقابلہ ہوا، انہوں نے کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے سوار کرایا تو ہم نے بھی سوار کرایا، انہوں نے دیا تو ہم نے بھی دیا پھر جب ہم نے ان کے کندھے سے کندھا ملا لیا اور گھوڑ دوڑ کے میدان کے دو برابر گھوڑوں کے مانند ہو گئے، تو اب عبدمناف والے کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس پر آسمان سے وحی آتی ہے بھلا ہم ایسا کہاں سے پائیں، قسم خدا کی ہم اس کو نہیں مان سکتے، ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ دیکھو! ابو جہل کا مشہور تاریخی اقرار کیا اس کا اقرار نہیں ہے کہ اپنے جہل اور ہٹ دھرمی کی تہ میں ”بڑائی“ اور ”علو“ کے خمار کے سوا وہ خود بھی کچھ نہیں پاتا تھا۔

اور جہاں بعضوں میں یہ تھا کچھ ایسے بھی تھے جن میں جاننے کے بعد اوہام و وساوس کے بھپارے اٹھ اٹھ کر ان کو ماننے سے روک لیتے تھے۔

آخر سادہ لوحوں کا وہ گروہ جن تکذیب کرنے والوں کی یہ تصدیقیں مسرت کے ساتھ سنایا کرتا ہے کہ جن کو ہم مانتے ہیں ان کے متعلق کارلائل بھی یہ جانتا تھا۔

”وہ زندگی کا ایک جگمگاتا ہوا نور^{۵۲} جسے قدرت نے اپنے سینے سے پھاڑ کر دنیا کو روشن کرنے کے لیے چکایا تھا، وہ جو جہاں کے پیدا کرنے والے کے حکم سے جہاں کو روشن کرنے کے لیے آیا تھا، موجودات کا عظیم مینار ہیبت ناک مگر تابناک راز اس کی آنکھوں کے سامنے چمک اٹھا، اس کی اپنی روح کو جو خدا کی الہامی قوت اس کے اندر موجود تھی، اس نے اس کو جواب دیا۔“

۵۲ (کس قدر عجیب ہے حدیث نور کی تصدیق ایک منکر کے قلم سے ہو رہی ہے سچ ہے والفضل ما محمدت بہ الاعداء ۱۲)

اور کوئی آرتھر نامی ڈاکٹر بھی اس کو اس قدر پہچانتا تھا۔

”محمد صاحب گہرے سے گہرے معنوں میں ہر زمانہ کے لیے ہر حیثیت سے سچے سے سچے زیادہ سے زیادہ صداقت رکھنے والی روحوں میں سے تھے۔ وہ صرف عظیم اور برتر آدمی نہ تھے بلکہ بنی نوع انسان میں جو بڑے سے بڑے یعنی سچے سے سچے آدمی کبھی پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک تھے۔

اتنا جاننے کے بعد اتنا پہچاننے کے بعد خود ہی بتاؤ کہ انہوں نے اس کو مانا کیوں نہیں جو ان کے ماننے کے لیے بھی آیا تھا جس طرح دوسروں کے لیے اس کا ماننا ضروری تھا۔

مگر نہیں جس قدر انہوں نے جانا تھا اگر اسی پر قائم رہتے تو ماننے پر وہ پھر مضطر ہو جاتے۔ جیسا کہ ماننے والے مضطر ہوئے، لیکن وہ ”علم“ کے نشان زدہ حدود پر نہیں ٹھہرے۔ ”علم“ کے ساتھ انہوں نے ”وہم“ کو شریک کیا، ”وہم“ نے ان کو ”ظلم“ کے کنارے پر لا کر پھسلا دیا، دیکھو! وہ محرومی کے گڑھوں میں منہ کے بل گرے ہوئے ہیں، انہوں نے جانا مگر جاننے کے بعد ظلم کے اندھیرے نے ان بد بختوں کو ماننے سے محروم رکھا، انہوں نے وسوسہ پکایا اور بولے کیا ضرور ہے کہ جس کا ”دل“ ایسا ہے اس کا ”دماغ“ بھی ایسا ہو!

جن کے سامنے ”مکہ“ بھی گزر چکا اور ”مکہ“ میں جو کچھ گزرا وہ بھی گزر چکا۔ مدینہ بھی گزر چکا اور مدینہ میں جو کچھ گزر چکا، جب ان میں شک کا بخارا اٹھا اور اس وقت تک اٹھ رہا ہے تو جو ابھی ”مکہ“ میں تھے مدینہ ان کی نگاہوں سے اوجھل تھا، کیونکہ اچنبھا ہوتا ہے اگر اوہام کی تاریکیوں میں پھنس کر انہوں نے ٹھوکر کھائی اور باوجود جاننے کے تجربات و مشاہدات کی اس تیز روشنی میں پہچاننے کے ماننے سے ہچکچاتے رہے، ان کے ”علم“ میں بھی ”ظلم“ ہی کی ”ظلمت“ شریک ہوئی اور جو چیز سامنے آ چکی تھی پھر اس پر پردہ پڑ گیا۔

دارالندوہ کا آخری فیصلہ اور ہجرت:

حالانکہ عمل کا رد عمل شروع ہو چکا تھا اور اس کا طوفان غیب سے سینہ تانتا ہوا شہادت کے ساحل سے ٹکرا رہا تھا، مگر انہوں نے اس کا اندازہ نہیں کیا اور جس طرح اب تک اس سے ٹکرا رہے تھے پھر ٹکرانے پر آمادہ ہوئے۔

”منی“ کے میدان میں تسخیری قوت کا جو مظاہر ہوا تھا، اس نے اس میں اور ہلچل پیدا کی، ان کو اپنی بڑائی کی بربادی کا اندیشہ ہوا، اپنے ”ضمیر“ کے صادق احساس پر اسی قسم کے اوہام کی پٹی باندھ کر وہ اندھے بنے اور کونے ۵۳ کے جس پھینکے ہوئے پتھر پر اس لیے پہلوں نے تعجب کیا تھا کہ جس پر وہ گرتا ہے وہ بھی چور ہو جاتا ہے اور جو اس پر گرتا ہے وہ بھی چکنا چور ہو جاتا ہے۔ سب مل کر آخری دفعہ ٹوٹ کر گرے۔ جمہوریہ قریش کا مشہور اور منحوس ۵۴ ریزولوشن پاس ہو گیا۔

کس قدر عجیب ہے وہی جو ابوطالب کی گھاٹی میں جس کے پانی کو روک سکتے تھے جس کے کھانے کو روک سکتے تھے کہ اس وقت ان کو اس کی اجازت تھی کہ وہ رد عمل نہیں بلکہ عمل کا زمانہ تھا لیکن آج دیکھو! رد عمل کے زور کو دیکھو کہ آج وہی کھڑے ہیں، مکہ کے ہر گھر کے سورا کھڑے ہیں، کھنچی ہوئی تلواریں لیے کھڑے ہیں، مکہ سے میل دو میل کسی ایسی گھاٹی کی ناکہ بندی کے لیے نہیں کھڑے ہیں کہ جس میں پہنچنے کے لیے بیسوں راستے اور درے ہیں، بلکہ ایک مختصر سے گھر کے اندر دروازے پر کھڑے ہیں، لیکن جس کے پانی بلکہ جس کے خادموں کو پانی اور کھانے کو متعدد راہوں والی گھاٹی میں روک سکتے تھے آج خود اس کو روکنے پر قادر نہ ہو سکے، جاگ رہے تھے، لیکن سوئے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے، لیکن نہیں سو جھتا تھا، جس کو خاص سب کچھ دیا جا چکا تھا اس کی جان تو خیر اب اس کے قدم کی خاک بھی اپنے ہاتھوں اپنے سر پر نہیں مل سکتے تھے۔ جب تک وہی نہ مل دے۔ ۵۵

۵۳ (زبور کی اس پیش گوئی کی طرف اشارہ ہے جس میں آنحضرت کو کونہ کے سرے کا پتھر قرار دیا گیا ہے اور اس کی پیش گوئی کی گئی ہے جو اس پر گرے گا وہ بھی چور ہوگا اور جس پر یہ گرے گا اس کو بھی چکنا چور کرے گا) ۵۴ (یعنی قید و جلا وطنی کی رائے کو مسترد کر کے طے کیا گیا جمہوریہ کی ہر پارٹی (قبیلہ) سے ایک آدمی اس مجمع میں شریک ہو جو اندھیرے میں ایک دفعہ مل کر آنحضرت کا کام (العیاذ باللہ) تمام کر دے تاکہ کسی ایک پر ذمہ داری عائد نہ ہو) (۱۲)

۵۵ (آنحضرت اپنے بستر مبارک پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سلا کر جب گھر سے باہر نکلے تو کافروں کا جو گروہ گھر کو گھیرے ہوئے تھا۔ ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے نکل گئے) (۱۲)



سفر ہجرت کا آغاز اور اس کے واقعات:

جس کے آگے ”غیب“ جھک چکا تھا ”شہادت“ جھک چکی تھی ”ملاءِ اعلیٰ و ادنیٰ“ جھک چکے تھے ”جن“ جھک چکے تھے ”انس“ جھک چکے تھے۔ دل ڈھونڈتا ہے کہ اس کے آگے جمادات بھی جھکیں، نباتات بھی جھکیں، حیوانات بھی جھکیں، درند بھی جھکیں، دوند بھی جھکیں، پرند بھی جھکیں، الغرض جو بھی جھک سکتے ہیں سب جھکیں اور کیا یہ صرف عقل ہی کا تقاضا ہے جن کے کان ہیں سنیں۔

اَللّٰی یَا رَسُوْلُ اللّٰہِ (میری طرف تشریف لائیے اے اللہ کے رسول) ”حرا“ کی جمادی چٹانیں چلا رہی ہیں۔ ”ثور“ کا پہاڑ بھی یہی پکار رہا ہے۔ آخر وہی مسعود ہوا۔ جو محروم تھا ”حرا“ میں نہیں جہاں رہ چکے تھے بلکہ نئے ”غار ثور“ کو یہ سعادت نصیب ہوئی اور کیا صرف یہی سنایا گیا۔ کیا اسی کے ساتھ یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ اسی غار کے دہانہ پر جس میں ملائکہ کا مسعود تھا، قدرت کا مقصود تھا ہرے بھرے ^{۵۶} درختوں کی ڈالیاں سر بسجود ہیں۔ اس ”نباتاتی“ وجود کے بعد ”حیوانی“ قوتوں کو ”دوندوں“ کی شکل میں بھی ”پرندوں“ کی شکل میں بھی مجونیزا و مصروف کار پایا گیا، جلیل اصحاب رسول اللہ زبیر بن ارقم، مغیرہ بن شعبہ، انس بن مالک سب ہی اس کے راوی ہیں۔

اسی غار میں سلیمان علیہ السلام کی چیونٹیوں کی طرح غریب مکڑیوں نے سلیمان علیہ السلام کے محبوب ”خلو محمدیم“ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ کے لیے وہ گھر پیش کیا جو تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور تھا، لیکن آج دنیا کا یہی ”اَوَّہِنُ الْمُبْتُوتِ“ پھپھسا گھر خدا جانے کتنے سنگین قلعوں کی بنیاد قرار پایا، اس کے بعد اس گھر کے بعد ”دہلی“ میں ”آگرہ“ میں ”درہ دانیال“ میں ”جنوب“ میں ”شمال“ میں یہ جولال اور پیلے سفید وزرد قلعے بنے اور انشاء اللہ بنتے چلے جائیں گے ان تمام قلعوں میں سب سے پہلا قلعہ کیا کمزور مکڑیوں کا یہی کمزور جالانہ تھا؟ کون کہہ سکتا ہے کہ آج اگر یہ نہ ہوتا تو اس کے بعد جو کچھ ہوا، ہو سکتا تھا چھوٹے کو بڑے بنانے والا بڑوں کو چھوٹا بنانے والا ہمیشہ یہی کرتا رہا ہے کرتا رہے گا۔

۵۶ (زرقانی نے قسم بن ثابت بن حزم کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ یہ ببول یا مدار کے درخت تھے عکبوت اور غار پر درخت کی شاخوں کے جھکانے کا ذکر امام احمد بن حنبل کی مسند اور مسند بزار کی حدیثوں میں بھی ہے ۱۲)

فَسُبْحَانَ اللَّهِ جَلَّتْ عَظْمَتُهُ اور کون کہہ سکتا ہے کہ جن حماموں (کبوتروں) کی حمایت دنیا کی اسلامی طاقتوں کا آج متفقہ فیصلہ ہے۔ حرم کعبہ کے یہ کبوتر اسی جوڑے کی نسل سے نہیں ہیں جس نے ان طاقتوں کے پیدا کرنے والے کی بھی کبھی حمایت کی تھی جو جانتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں پھر میں ان سے کیا پوچھوں جو نہیں جانتے ہیں اور سچ یہ ہے کہ جو سب کے لیے تھا ”عالمین“ کی اس رحمت کے لیے اگر سب ہو رہے ہیں سانپ^{۵۸} اور سانپ کے زہر اس کے لب و دندان کی جنبش سے بھاگتے ہیں۔ زمین اس کے اشارہ کے حکم سے سراقہ کے گھوڑے کی ٹانگوں کو ٹگتی ہے۔ ام معبد کے خیمہ کی بانجھ بکری کا تھن دودھ سے بھرتا ہے جہاں اترتا تھا اور جہاں سے اترنے کے بعد پھر حشر ہی میں اٹھنا تھا اس کو بے زبان اونٹنی پہچانتی ہے۔ تو بتاؤ کہ آخر عقل اس کے سوا کیا سوچ سکتی ہے اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا۔ جب ”اول“ نے ”ثانی“ سے کہا اس ثانی نے کہا جو زندگی میں اس کا ہر بات میں ”ثانی“ تھا اور مرنے والے کے بعد بھی ”ثانی“ ہے تو کیا یہ واقعہ نہ تھا صرف طفل تسلی تھی حالانکہ جس نے کہا نہ وہ طفل تھا اور جس کو کہا گیا وہ بھی طفل نہ تھا اللھم صلی علیہ وسلم وارض عن صاحبہ جب وہی ہوا جس کو ہونا چاہیے تو تم مبہوت ہوئے پھر کیا تم چاہتے ہو کہ وہ ہو جس کو نہیں ہونا چاہیے یا جو نہیں ہو سکتا تم کو کسی غریب بکری اور مسکین اونٹنی پر حیرانی ہے پھر سر پیٹو گئے کیا اپنے بال نوچو گے؟ جب اس کے قدموں پر اس کے خادموں اور ادنیٰ خادموں کی جوتیوں پر عرب شار ہوگا، عجم نچھاور ہوگا، کسریٰ گرے گا، قیصر جھکے گا۔

۵۷ (علامہ زرقانی محدث جلیل نے اس پر بحث کی ہے کہ ”غار ثور“ کے دہانہ پر کبوتر کے جس جوڑے نے انڈے دے کر ان کو سینا شروع کیا تھا حرم کے لاکھوں کبوتر اسی جوڑے کی نسل سے ہیں)

۵۸ (یہ سارے واقعات سفر ہجرت میں پیش آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جس سوراخ کو پاؤں کے انگوٹھے سے بند کیا تھا اس میں سانپ تھا اس نے کاٹ دیا آنحضرت نے لعاب دہن لگا دیا تکلیف جاتی رہی اور اب تک صدیقی خاندانوں میں اس کا نشان پایا جاتا ہے محدث جلیل شوق نیوی نے اپنے پاؤں میں اس نشان کا دعویٰ کیا ہے۔ اسی طرح قریش کے اعلان کردہ انعام کے لالچ نے سراقہ بن جہشم بدو کو آنحضرت کے تعاقب پر آمادہ کیا لیکن اس کا گھوڑا تین دفعہ زمین میں دھنسا پھر امان مانگ کر سامنے آیا ام معبد کے خیمے میں ایک بانجھ بکری بندھی تھی ام معبد کی اجازت سے اس کا دودھ نکالا گیا حضور نے بھی پیا اور آپ کے رفقاء نے بھی یہ سارے واقعات بخاری اور حدیث و سیر کی کتابوں میں موجود اور مشہور ہیں ۱۲)

۵۹ (غار ثور میں حضرت ابو بکر کے ساتھ آنحضرت جب روپوش تھے اور قریش کے لوگ تلاش کرتے ہوئے غار کے منہ تک پہنچ گئے اس وقت حضرت ابو بکر گھبرا گئے اور آنکھ سے آنسو بھی نکل پڑے لیکن آنحضرت نے کہا ”مت گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے“ فرما کر ان کی تسلی کی قرآن نے اس قصہ کو بختہ بیان کیا ہے اور اس آیت میں حضرت ابو بکر کو ثانی اثنین دو کا دوسرا فرمایا گیا ان ہی واقعات کی طرف اشارہ ہے ۱۲)

اور دیکھو یہ سب تو ہو بھی چکا اور جو نہیں ہوا ہے وہ بھی ہو کر رہے گا یہاں بھی یہی ہوگا وہاں بھی یہی ہوگا۔ جس صحیح حدیث میں ہے کہ

أَدَمُ وَمِنْ ذُوْنِهِ تَحْتَ لَوَائِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ (صحاح)

آدم اور جو آدم کے بعد ہیں سب قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔

تو کیا اسی صحیح روایت میں یہ بھی نہیں ہے۔

لَا يَتَّقِي عَلَيَّ وَجْهَ الْأَرْضِ لَا بَيْتَ صَدْرُ مِنْهُ وَلَا ذَبْرٌ إِلَّا دَخَلَهُ الْإِسْلَامُ بِعِزِّ عَزِيزٍ وَذَلِ ذَلِيلٌ. مسند احمد

روئے زمین پر کوئی گھریا کوئی خیمہ ایسا نہیں باقی رہے گا جس میں اسلام داخل ہو کر نہ رہے جو عزت سے چاہے گا وہ عزیز ہو کر جو ذلت سے چاہے گا وہ ذلیل ہو کر۔ جس کا ذکر نہ بلند کیا گیا ہے بلند کرنے والا اپنے اس نور کی روشنی کو پوری کر کے رہے گا

”وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ“

سفر ہجرت میں سراقہ سے گفتگو:

پھر یہ نہ کہو کہ جو کچھ دیکھا گیا ہونے کے بعد ہی دیکھا گیا، حالانکہ یہی چٹیل میدان ہے جہاں دیکھنا تو کیا معنی سو نچا بھی نہیں جاسکتا، لیکن جو بات سو نچی نہیں جاسکتی ہونے سے پہلے دیکھی گئی اور اس یقین کی روشنی میں دیکھی گئی کہ کہا جا رہا تھا اور بغیر کسی تذبذب کے اس کو کہا جا رہا تھا جس کا گھوڑا جنس گیا تھا ہنستے ہوئے امان عطا فرمانے کے بعد اسی کو فرمایا جاتا ہے۔

كَيْفَ بَكَ إِذَا لَبِستَ سَوَارِي كَسْرِي

(سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تو کسری کے کنگن پہنے گا)

چکرا گیا مدحی دہقان سراقہ بن ہشتم چکرا کر پوچھنے لگا۔

اِکسری فآرس؟

(کیا ایران کا کسری؟)

۶۰ (آیت رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا) وَاللَّهُ مَتَمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (اللہ اپنی روشنی کو پوری کر کے رہے گا نہ ماننے والے چاہے جتنا بھی اسے ناپسند کریں ۱۲)

پھر اور کون

هَلَكَ كِسْرَى فَلَا يَكُونُ كِسْرَى بَعْدَهُ وَقَيْصِرٌ لَيْهَلِكُنَّ ۗ ثُمَّ لَا يَكُونُ

قَيْصِرٌ بَعْدَهُ. (صحاح)

(کسرئی ہلاک ہو گیا، اس کے بعد کسرئی نہ ہوگا پھر کچھ دن بعد قیصر بھی یقیناً ہلاک

ہوگا پھر اس کے بعد قیصر نہ ہوگا)

کے اعلان کرنے والے یتیم ابی طالب نے (سلام ہو ان پر صلوة ہو ان پر) اس وقت جواب دیا، جب قدید کے ریگستان میں قرض کی خرید ہوئی ایک اونٹنی کے سوا اس کے پاس کچھ نہ تھا، پھر جب ہونے کے بعد اسی واقعہ کو مدینہ کی مسجد میں اس طرح دیکھا گیا کہ وہی تاج^{۱۲} جو سونے کی زنجیروں میں بندھا ہوا، کج کلاہ ایران کے سر پر لٹکتا رہتا تھا، اسی مدحی دہقان کے سر پر رکھا ہوا ہے، جو ہر نگار کمر بند اس کی کمر سے باندھا گیا ہے، زیور پہنائے گئے ہیں تو کرہ زمین کا جو سب سے بڑا بادشاہ^{۱۳} تھا، کتنی پستی کے لہجہ میں کہہ رہا تھا، سراقہ ہاتھ اٹھا اور بول اللہ اکبر، اسی کے لیے ساری ستائش ہے جس نے کسرئی سے چھینا اور مالک بدو کے بیٹے اس سراقہ کو پہنایا، ”جو بنی مدح کے گنواروں کا ایک گنوار ہے۔“ فاروق اعظمؓ بھی اس کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے جاتے تھے۔

بہر حال قریش کا آخری منصوبہ اسی خاک میں مل گیا جو ان کے سروں پر پڑی ہوئی تھی ”کئی“ زندگی ختم ہو گئی، اس زندگی میں جو کچھ دکھانا تھا، جن باتوں کا تجربہ کرانا تھا، جس کی گواہیاں مہیا کرنی تھیں، سب کام پورا ہو گیا، بڑے سکون، انتہائی ثبات، کامل استقامت سے پورا ہوا۔

۱۱ (حدیث کے الفاظ قابل غور ہیں، ایرانی حکومت کی بربادی کا فیصلہ اسی وقت کر دیا، لیکن قیصر کے متعلق هَلَكَ نہیں بلکہ لَيْهَلِكُنَّ کا لفظ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مغربی تمدن کی موت اتنی قریب نہ تھی جتنی مشرقی کی اور یہی واقعہ بھی ہوا۔ ۱۲)

۱۲ (کہا جاتا ہے کہ سونے اور جواہرات کے بوجھ سے کسرئی کا تاج اس قدر وزنی ہو گیا تھا کہ سر پر رکھا نہیں جا سکتا تھا، بلکہ سر ہی کو اس میں داخل کیا جاتا تھا، تاج زنجیروں سے چھت میں لٹکا رہتا تھا، ۱۳)

۱۳ (یہ مبالغہ نہیں بلکہ واقعہ ہے چھٹی صدی عیسوی میں دنیا کی سیاسی قوتوں کا مرکز دو قوتوں میں منقسم ہو کر رہ گیا تھا۔ سارا مشرق کسرئی ایران کے اور سارا مغرب روم کے زیر اثر تھا اور یہی دونوں قوتیں باہم کش مکش کر رہی تھیں کہ اسلام ظاہر ہوا اور خلافت فاروقی میں دونوں قوتیں برباد ہو گئیں جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی قوت تمام عالم کی سب سے بڑی قوت ہو گئی ۱۴)



اور دیکھو کہ اس زندگی کے ختم ہونے کے ساتھ جیسا کہ میں نے کہا تھا جو آگے تھے پیچھے ہو گئے اور جو پیچھے تھے آگے ہو گئے، مدینہ ایمان سے بھر گیا حالانکہ وہاں کے لوگ بعد کو آئے۔

لیکن جن میں وہ خود آیا تھا، بخت کی کوتاہی دیکھو کہ ان میں اکثر وہ کو اب تک ہوش نہیں آیا کہ بڑائی کے نشہ میں متوالے ہیں۔ کچھ شکوک کی چادر اپنے ایمانی احساس پر ڈالے ہیں، دل کے متعلق بالکل اطمینان ہے، لیکن دماغ سے ان کوتاہ نظروں کا دماغ کچھ بدگمان ہے۔



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مدنی زندگی

جن کوتاہ بینوں نے ”دل“ کا اقرار کیا تھا لیکن دماغ پر ان کو اب تک شک تھا اب ان کی ہی تنگ نظریوں کے لیے دوسری زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ جس میں دل سے زیادہ ”دماغ“ ہی کی نمائش ہوگی تاکہ وہ وہی شوشہ بھی مٹ جائے جس کی آڑ میں جاننے کے بعد نہ جاننے کے لیے چھپنے والے چھپ رہے ہیں۔

اور دیکھو کہ دماغی تجربات بینہ کی اسی کشمکش سے وہ ترشی بھی نچوڑی جائے گی جس سے ان خود بینوں کا نشہ پھاڑا جائے گا پھٹ جائے گا جن کے پاؤں ”سربلندی و علو“ کے خمار کے ہاتھوں جاننے کے بعد بھی ماننے سے اب تک ڈگمگا رہے ہیں تاکہ حجت پوری ہو۔

لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيِيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ

جو مرنا چاہے وہ کھلے بندوں سب کچھ دیکھ کر مرے اور جو جینا چاہے وہ بھی کھلے بندوں سب کچھ دیکھ کر جیئے۔

مدنی زندگی کے شروع میں جو یہ دکھایا گیا کہ هَوَانِي عَلَى النَّاسِ^{۶۴} کے فریادی کو ”الناس“ اور ”ناس“ کے ساتھ جو کچھ ہیں سب پر اس کو وزن بخشنا جا رہا ہے یا طائف کی گلیوں میں جو رو کیا گیا تھا، سلع پہاڑ^{۶۵} کے دامن میں سب اسی پر رد کیے جا رہے ہیں بھوکوں کے لیے روٹی لے کر دوڑے آتے ہیں۔ پیاسوں کے لیے پانی لے کر دوڑتے آتے ہیں گاتے ہیں بجاتے ہیں باہم ایک دوسرے کو لٹکارتے ہیں ابھی ابھی جس کو جمادی چٹانیں هَلَمَّ اِنِّي يَا رَسُولَ اللّٰهِ

۶۴ (طائفی دعا کا وہی ٹکڑا ہے جس میں آنحضرت نے اپنی سبکی کے متعلق فرمایا ۱۲)

۶۵ (شروع میں بتایا گیا تھا کہ مدینہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے جس کا ذکر البیع نبی کی کتاب میں بار بار آیا ہے اور آئندہ الفاظ بھی حضرت البیع علیہ السلام کی پیش گوئی ہجرت سے ماخوذ ہیں ۱۲)

کے ساتھ پکار رہی تھیں اسی کو انسانی زبانیں آگے آگے بڑھ کر ٹھیک اسی طرح بَارَسُوْنَ اللّٰهُ هَلْمُ
 اِلَى الْقُوَّةِ وَالْمَنْعَةِ ۱۶ (اے اللہ کے رسول زور اور حفاظت کی طرف آئیے) عرض کرتے
 ہوئے جان حاضر کرتے ہیں تو مدینہ کا نہیں بلکہ قرن الثعلب کے موڑ پر طائف سے نکلتے
 ہوئے جس عمل کا رد عمل طلاء اعلیٰ سے شروع ہوا تھا یہ اسی تسخیری قوت کا ظہور ہے جو مکہ میں بھی
 ظاہر ہوا، ثور میں بھی ظاہر ہوا، ثور سے باہر نکلنے کے بعد بھی ظاہر ہوا، قبا میں بھی ظاہر ہوا،
 جہاں خالق کا جو دروازہ مخلوقات کے لیے بند تھا، صدیوں کے بعد پہلی دفعہ قبا کی مسجد بنا کر
 کھولا گیا تاکہ جس کسی کو جہاں کہیں زمین پر قابو بخشنا جائے پہلا کام یہی کرے اور اب مدینہ
 میں بھی اسی رد عمل کا ظہور ہو رہا ہے آئندہ ہوتا رہے گا، اسی کا ظہور کوفہ میں بھی ہوگا، دمشق
 میں بھی ہوگا، بغداد میں بھی ہوگا، غرناطہ اور قرطبہ میں بھی ہوگا، قاہرہ میں بھی ہوگا، غزنی میں
 بھی ہوگا، دہلی میں بھی ہوگا اور کیا بتاؤں کہ کہاں کہاں ہوگا کب تک ہوگا، بلکہ سچ یہ ہے کہ ابد
 تک اب تو صرف اسی کا ظہور ہے اسی کی نمود ہے اس لیے ”مدنی زندگی“ کے اصلی عناصر یہ
 واقعات نہیں ہیں بلکہ یہ تو مکہ ہی کے آثار ہیں جنہیں تم اب مدینہ میں دیکھ رہے ہو، بلکہ مدنی
 زندگی میں تم کو وہ باتیں تلاش کرنی چاہئیں جن میں ”دل“ سے زیادہ ”دماغ“ کا ”اخلاق“
 سے زیادہ ”عقل“ کا تجربہ ہو۔

”مکہ“ میں جس طرح دیکھا گیا تھا کہ اس دل سے بہتر کوئی دل نہیں۔ اسی طرح ان باتوں
 کا مطالعہ ”مدینہ“ میں کرو جن کو دیکھ کر کہا جائے کہ اس ”دماغ“ سے بہتر کوئی ”دماغ“ نہیں۔

بناء مسجد وصفہ:

ظاہر ہے کہ مدینہ میں سب سے پہلے کام یہ کیا گیا کہ مسجد نبوی بنائی گئی اور اس کے ساتھ
 صفحہ ۶۸ کا مدرسہ بنایا گیا، لیکن کیا صرف مسجد بنائی گئی اور مدرسہ بنایا گیا، مسجد اور مدرسہ کون

۶۶ (یہ الفاظ انصار کے سردار اس وقت فرما رہے تھے جب آنحضرت کا داخلہ مدینہ منورہ میں ہو رہا تھا)

۶۷ (آنحضرت نے پہلی مسجد قبا ہی میں بنائی تھی ۱۲)

۶۸ (صفحہ کے معنی چبوترے کے ہیں، باہر کے غریب الوطن نو مسلموں کے لیے ایک چبوترہ بنا کر چھپر ڈال دیا گیا تھا
 اسی کا نام صفحہ تھا اس میں یہ لوگ قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کرتے تھے، کھانے پینے کا بند و سبت عام ارباب خیر اور
 خود رسول اللہ فرماتے تھے طلبہ کی تعداد سو تک بھی پہنچ گئی تھی، افسوس کہ مسلمانوں نے مسلمان طلبہ کے لیے مدرسے تو
 بہت بنائے، لیکن نو مسلموں کے لیے صفحہ کی سنت ترک کر دی کاش؟ اب بھی لوگوں کو یہ خیال ہو ۱۲)

نہیں بناتا اور کہاں نہیں بنتے پھر اس میں بڑائی کیا ہے باوجود استطاعت و قدرت کے پختہ اینٹ اور پتھر سے نہیں بنائی گئی بلکہ کھجور کے تنوں، شاخوں اور کچی اینٹوں سے بنائی گئی بلاشبہ اس میں یہ نمونہ ضرور ہے کہ مسلمان جس آبادی میں پہنچیں سب سے پہلے وہ اپنے گھر سے بھی پہلے وہاں خدا کی عبادت کی مسجد کی نیوکھودیں کہ مسجد ہی اسلام کی میخ ہے اسلامی آبادی بناتے ہوئے سب سے پہلے چاہیے کہ اس میخ کو ہر مسلمان اس جگہ گاڑ دے جہاں وہ آباد ہوتا ہے۔ تعمیری تکلفات کی وجہ سے دقت نہ ہو اس لیے سب سے پہلی مسجد کا نمونہ وہ رکھا گیا جسے ہر شخص گاڑ سکتا ہے ہر جگہ گاڑ سکتا ہے آخر تعمیری سامان کے لحاظ سے جو مسجد بھی ہوگی اس سے کیا کم ہوگی جو مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد تھی اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسجد مدرسہ کے ساتھ ہو، علم دین ہے، دین علم ہے عملاً اس نمونہ سے اس کی تعلیم دی گئی۔

تحویل قبلہ کا راز:

میں نہیں کہتا کہ اس مسجد و مدرسہ کے بنانے میں یہ مصالح بھی پیش نظر نہیں تھے۔ یا آئندہ مسلمانوں کو اس نمونہ کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے لیکن دیکھا گیا پر سوچنا نہیں گیا، آخر مسجد عرب میں بنتی ہے عرب میں کعبہ موجود تھا جو صرف عرب جاہلیت ہی میں نہیں بلکہ اسلام میں بھی محترم تھا، لیکن باایں ہمہ اس مسجد کا قبلہ عرب سے باہر فلسطین کے سلیمانی ہیکل کو کیوں ٹھہرایا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف قبلہ مقرر ہوا، لیکن یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ وطنیت کا جو بت عرب میں صدیوں سے پوجا جاتا تھا اور اس زور شور سے پوجا جاتا تھا کہ اس بات کا پجاری اپنے سوا سب کو ”عجم“ اور گونگا سمجھتا تھا۔ دیکھو کہ صرف ایک اسی مخفی ضرب نے اس بت کو پاش پاش کر دیا۔

جب قرآن میں ہے کہ ابتدا عربوں پر یہ غیر ملکی قبلہ گراں ۶۹ گزارا یہی تو غور کرنا تھا کہ کیوں گراں گزارا؟ لیکن اب تو گرائیوں کے برداشت کا انہوں نے عہد کیا تھا، جھجکے مگر اسی کے ساتھ ہی آگے بھی بڑھ گئے اور جو لاد اگیا لاد لیا، سترہ مہینہ تک اسی وطنیت شکنی کی مشق نے جب ان کے لیے عرب اور غیر عرب کو ایک بنا دیا تو اس سے بھی عجیب اور عجیب تر تماشا پیش ہوتا ہے۔

۶۹ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ (قبلہ کی تبدیلی گراں گزری مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ راہ دکھا چکا تھا) کی طرف اشارہ ہے (۱۲)

بیت المقدس کو قبلہ بنا کے عرب کے باشندے عرب سے الگ کیے گئے، لیکن اب عرب ہی نہیں بلکہ عرب اور غیر عرب خدا کی ساری زمین سے یہ عرب اور غیر عرب کا قصہ ہی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ سترہ مہینہ کے بعد قبلہ بدلتا ہے اور بجائے سلیمان کی ہیکل کے سلیمان و داؤد اسحاق و اسماعیل کے باپ ابراہیم کے بنائے ہوئے کعبہ کو قبلہ ٹھہرا کر حکم دیا جاتا ہے۔

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

اور جہاں سے تم نکلو اسی جگہ سے تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف موڑ دو اور جہاں کہیں اے مسلمانو تم ہو اپنے چہروں کو اس کی طرف موڑ دو۔

کیا مقصد ہے اس کا؟ یہی کہ جو کعبہ سے باہر کیے گئے تھے وہ بھی کعبہ کے اندر ہیں اور جو کعبہ سے باہر تھے اپنے کو کعبہ کے اندر سمجھیں، پہلے غیر عرب کو عرب کا قبلہ بنایا گیا اور جب یہ ہو چکا تو پھر عرب اور غیر عرب سب کو مٹا کر نہ عرب ہی رہا نہ غیر عرب رہا۔ بلکہ خدا کی جو ایک دنیا تھی وہ ایک ہی دنیا کی شکل میں واپس آ گئی۔ کعبہ دنیا کی مسجد کی دیوار ٹھہرایا گیا اور بسیط زمین اسی دیوار کا صحن قرار پائی یہی ہر مسلمان سمجھتا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرتا ہے وہ افریقہ کو بھی کعبہ میں سمجھتا ہے اور امریکہ کو بھی اسی کے صحن کا ایک حصہ قرار دیتا ہے۔ ایشیا بھی اس کو کعبہ کی دیواروں کے نیچے نظر آتا ہے، یورپ میں بھی جب اس کو نماز کی ضرورت ہوتی ہے تو کعبہ کے آنگن میں کھڑا ہو کر وہ اپنی نماز ادا کرتا ہے۔ ایورسٹ کے اسی کے صحن کا ایک ٹیلہ ہے اور بحر محیط اسی صحن کا ایک حوض، بحر قلزم اسی صحن کی ایک نالی ہے ایک مسلمان اپنی زندگی کے ہر دن میں پانچ وقت اسی نظریہ کی عملی شکل میں مشق کرتا ہے اور اس کو یہی بتایا گیا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے۔

جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا

(پوری زمین میری مسجد بنائی گئی ہے)

مواخاۃ اور اس کا فائدہ:

”وطنیت“ کے اس صنم اکبر کو توڑنے کے ساتھ اب قومیت اور نسلیت کا بت سامنے آتا ہے کس قدر سرسری طور سے لوگ گزر جاتے ہیں، جب سنتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ”مدینہ“ میں

انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کر لیا گیا تھا۔ ان میں عقد مواخاۃ قائم کیا گیا تھا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا، مہاجرین قریش اور قریش نسل کے ساہوکار کعبہ کے کلید بردار تھے اور انصار قبیلہ اوس و خزرج کے کسان اور کاشتکار تھے حالانکہ دونوں آدمی تھے، دونوں انسان تھے لیکن جس طرح آریائی نسل والوں نے سامی نسلوں کو اور سامی نسلوں نے تورانی نسلوں کو یا برہمنوں نے شوروں کو بے رنگوں نے رنگینوں کو پھیکوں نے نمکینوں کو آدمی کی نہیں بلکہ گھوڑوں کی اولاد، بیل کی نسل سمجھا اور اسی قسم بلکہ ان سے بدتر سلوک انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ روا رکھا، جو ان کے ہم نسل، ہم قوم نہ تھے۔

قریش کو اپنے نسب پر اپنے حسب پر بڑا ناز تھا، نسبی فخر ایک دیوتا تھا جو صدیوں سے ان میں پوجا جاتا تھا اور اس طرح پوجا جاتا تھا کہ غیر قریشی عربوں کے ساتھ حج کرنے میں بھی اپنی اہانت محسوس کرتے تھے، اجلے کالوں کے ساتھ دعا تک نہیں مانگتے ہیں، اپنی ذلت سے ڈرتے ہیں۔ قریشی اس قبرستان میں بھی دفن ہونا ننگ خیال کرتے ہیں، جس میں کوئی غیر قریشی دفن ہوتا۔ جس طرح آج بھی شوروں کی مسان، برہمنوں چھتریوں کے مرگھٹ سے دور ہوتی ہے، یہی مواخاۃ کا گرز تھا جس نے اس بت کو بھی ڈھیر کر کے رکھ دیا۔

قریشی سردار انصاری کسان کے آگے جھکا ہوا تھا، وہ اس کے ہاتھ چومتا تھا اور یہ ان کے قدم لیتا تھا، یہ اس کو اپنا سب کچھ بلکہ تم نے سنا ہوگا کہ طلاق دے کر ایک بیوی تک دینے پر اصرار کرتا تھا اور وہ شکر یہ کے ساتھ انکار کرتا تھا۔

اور یوں مخلوقات بلکہ اپنے خود ساختہ مخلوقات کے بچوں سے آزاد ہو کر مدینہ والوں نے اپنے کھوئے ہوئے رب قیوم کو پالیا تھا، اس کے بعد منادی کرادی گئی کہ اب دنیا ایک ہے، اس کا معبود ایک ہے، ان کا رسول ایک ہے، ان کی کتاب ایک ہے، ان کا کعبہ ایک ہے۔

اذان کی ابتداء:

اور دیکھو کہ دن کے پانچ وقتوں میں کڑک کڑک کر گرج گرج کر بلند میناروں سے پکارنے والے مشرق میں، مغرب میں، زمین کے آخری کناروں تک یہی پکار رہے ہیں، پکارتے رہیں گے، کیا ناقوس سے، بوق سے، قرنا سے، گھنٹوں سے، طبل سے، نقاروں سے یہ

بات ممکن تھی جس کی ابتداء اذان کے عجیب و غریب ندائی طریقہ سے زمین پر اسلام کی سب سے پہلی مسجد میں کی گئی متعدد وطنوں کا بت ٹوٹ گیا۔ متعدد نسلوں کا صنم چور چور ہو گیا۔ جو توڑے گئے جٹ گئے جو بکھیرے گئے تھے سمٹ گئے، الغرض جو ایک تھے وہ ایک ہی ہو گئے اور اسی یکتائی کا خلاصہ وہ ہے جس کا اعلان اذان کی شکل میں پانچوں وقت کیا جاتا ہے، محض فکر و خیال میں نہیں بلکہ واقع میں عملی طور پر مدینہ میں دنیا کا یہ نقشہ قائم ہو گیا۔

تبلیغ عام کا آغاز:

انسانیت کی آزادی کا یہی عالمگیر نقشہ تھا جس کو عالم میں منطبق کرنے کے لیے ”کافہ للناس“ اے کا بشیرونذیر اب ”کافہ الناس“ کی طرف بڑھتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار تھا کہ ”قرن العلب“ کے پاس اس کو جو خشین (دو پہاڑ) دیئے گئے تھے ان ہی کو لے کر آگے بڑھتا ہے لیکن یہ تو پھر دل کا امتحان ہو جاتا حالانکہ اب تو صرف دماغ ہی کا تجربہ کرانا مقصود ہے دکھایا جاتا ہے کہ جس کے دماغ کے یہ کارنامے ہیں اس کو مجنوں کہنے والے کیا خود مجنوں نہیں ہیں جس کی عقل، جسم کے فہم کے یہ کرشمے ہیں اس کے عقلی توازن میں نقص نکالنے والے کیا ایسے بد بخت خود عقلی توازن سے محروم نہیں ہیں۔

مشکلات راہ:

راستہ اگر صاف ہوتا تو اس وقت جو کچھ دکھانا ہے کامل طور پر دکھایا نہیں جاسکتا تھا لیکن دیکھو! راہ میں کانٹوں کے جو گھنے جنگلی پ و راست اوپر اور نیچے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں وہ قصداً ان ہی میں گھس کر نکلتا ہے اور کتنے شاندار طریقہ سے نکلتا ہے۔

بیابان کے ایک نخلستانی قصبہ کے ان کسانوں کی آبادی سے یہ تحریک عالم کی طرف یلغار کرتی ہے جو یہودی ساہوکاروں کے سودور سود کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں ان کی زمینوں میں پیدا ہی کیا ہوتا ہے۔

اے یعنی سارے انسانوں کو خوش خبری اور دھمکی دینے والا قرآن کی آیت کا اقتباس جس میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے تم کو سارے انسانوں کا بشیرونذیر بنا کر بھیجا ہے (۱۲)

لیکن جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے کے ساتھ یہودی قرض خواہوں کے گھراٹھ کر چلا جاتا ہے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ اس چھوٹی سی آبادی کے دو خاندان اپنی خانہ جنگی میں رہے سبے جانوں اور سرداروں کو بھی کھو چکے ہیں ان کے ساتھ اپنے دھن سے وطن سے پھڑے ہوئے کچھ لوگ اور بھی شریک ہیں جن کی تعداد سو سے زیادہ نہیں ہے ان کا یہ حال ہے۔ دوسری طرف سارا عرب ایک کمان بن کر اس تحریک والوں کو نشانہ بنائے ہوئے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کرنے پر تلا ہوا ہے یہودی اپنی مہاجنی کی کسادبازاری سے گھبرا کر ان تمام قلعوں اور قلعہ والوں کو مخالفت کے نقطہ پر جمع کر رہے ہیں جن کا سلسلہ مدینہ سے شروع ہو کر شام کے حدود تک پھیلا ہوا ہے۔ مشکلات کا خاتمہ اسی پر نہیں ہو جاتا ہے بلکہ بتدریج مخالفت کی یہ آگ بڑھتے بڑھتے اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی مشرقی طاقت (ایران) اور سب سے بڑی مغربی طاقت (روم) دونوں طاقتوں کو مدینہ کی بربادی پر آمادہ کر دیتی ہے۔

رومیوں کے گھوڑے مدینہ سے تھوڑی دور کے فاصلہ پر غسانوں^۲ کے حدود پر ہنہنا رہے ہیں اور کسریٰ^۳ کے چڑا اسی وارنٹ لیے مدینہ پہنچ کر دھمکا رہے ہیں کہ ”مدینہ کے کسانوں کے سردار کو دربار شاہی میں گرفتار کر کے حاضر کیا جائے“ یہ ان کے شہنشاہ کا فرمان ہے جو یمن کے گورنر باذان کے توسط سے مدینہ تک پہنچا ہے۔

یہ اس وقت کا سماں ہے جس وقت مدینہ میں ”دماغ“ کے تجربہ کے لیے نسل انسانی کو دعوت دی جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے۔

^۲ (مدینہ منورہ کے شمالی حدود پر عیسائی راجواڑے رومی حکومت کے باجگزار تھے اور ان ہی کے ذریعہ سے اسلام کا رومیوں سے تعلق پیدا ہوتا تھا) اسی حکومت کا بادشاہ جب کہ مسلمان ہو کر حضرت عمر کے عہد میں مرتد ہو کر قسطنطنیہ بھاگ گیا تھا رومیوں سے چھیڑ چھاڑ آنحضرت کے عہد میں شروع ہو گئی موتہ میں گھمسان کی جنگ بھی ہوئی اور جنوک کا سفر رومیوں ہی کو روکنے کے لیے تھا لیکن ان سے ملاقات نہ ہو سکی (۱۲)

^۳ (جب آنحضرت کا نامہ مبارک کسریٰ شاہ ایران کے پاس اس طرح پہنچا کہ آنحضرت کا اسم مبارک اس کے نام سے پہلے تھا..... تو علاوہ خط پھاڑنے کے اس نے حضور کی گرفتاری کے لیے چڑا اسی مدینہ بھیجے)

غزوہ بدر:

قیدار^۴ کی ساری حشمت جیسا کہ یسعیاہ نبی نے کہا تھا، ایک سال ٹھیک مزدوروں کے ایک سال کے اندر بھس کی طرح جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ علو کبریائی کا جو نشہ ان کے قدم کو جمنے نہیں دیتا تھا۔ پھٹ کر ہوا ہو گیا۔ جو سب سے بڑا ۵۷ تھا۔ سب سے چھوٹے کے ہاتھوں قتل ہوا، قریش کے ستر سو مارے گئے اور یوں قیدار کی حشمت خاک میں مل گئی۔

وہی عرب جو ایک کمان^۵ سے تیر بن کر اس کو نے کے پتھر پر گرے تھے جیسا کہ کہا گیا تھا جو اس پر گرتا ہے، چور چور ہو جاتا ہے، چور چور ہو کر اس طرح بدلے کہ جو دشمن تھے وہ دوست ہو گئے۔ جن پر تلوار چلائی گئی وہ نہیں، بلکہ جنہوں نے تلوار چلائی، انہوں نے مسلمان ہو کر ان جھوٹوں کو جھٹلایا۔ جنہوں نے بازاروں میں پھیلا یا تھا کہ جو کچھ پھیلا یا گیا، تلوار کے زور سے پھیلا یا گیا، مکہ میں جن سے چھینا گیا تھا، سب کچھ چھینا گیا، پانی چھینا گیا، کھانا چھینا گیا، گھر چھینا گیا، در چھینا گیا، اور آخر میں جینے کا حق بھی چاہا گیا تھا کہ چھینا جائے اور کتنوں سے چھینا گیا۔ دہکتی ہوئی آگ، چمکتی ہوئی تلواروں، کھینچی ہوئی کمانوں کے نیچے سے بھاگتے ہوئے، پھر چمکتی ہوئی تلواروں اور کھینچی ہوئی کمانوں، تنے ہوئے نیزوں کے ساتھ فتح کا پھریرا اڑاتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتے ہیں، لیکن لیتے ہوئے نہیں دیتے ہوئے، اکڑے ہوئے نہیں، جھکے ہوئے بدلہ چکاتے ہوئے نہیں، حط و عنقو کرتے ہوئے۔

أَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ

۴ (حضرت اسماعیل کے بارہ بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام قیدار تھا، جن کی نسل سے قریش تھے اسی لیے بائبل میں ان کا ذکر قیدار کے لفظ سے کیا جاتا ہے، ۱۲)

۵ (ابو جہل جس کا دوسرا خطاب ”فرعون هذه الامة“ تھا ایک کم سن انصاری لڑکے کی تلوار سے قتل ہوا۔ عبد اللہ بن مسعود نے جب اس کا سر کاٹنا چاہا تو اس کا یہ مشہور فقرہ تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ ”سردار کی گردن ہے ذرا نیچے سے تراشنا تاکہ مقتولوں کی صف میں جب میرا سر رکھا جائے تو اونچا نظر آئے۔“

۶ عربی تاریخوں کے اس جملہ کا ترجمہ (دمہم بقوس واحد) یعنی عربوں نے مسلمانوں پر ایک کمان بن کر تیر برسانا شروع کیا، ۱۲)

۷۷ شہر کے دروازے میں سر جھکائے ہوئے اور ہلے (یعنی گناہوں اور قصوروں کو جھاڑتے ہوئے) معاف کرتے ہوئے داخل ہونا) کی تعمیل کرتے ہوئے، رحم و کرم، صبح و اعراض، مغفرت و درگزر، امن و امان کے پھول برساتے ہوئے:

الْيَوْمَ يَوْمَ بَرٍّ وَفَاءِ الْيَوْمِ أَنْتُمْ الطُّلَقَاءُ

آج صلہ رحمی اور وفا کرنے کا دن ہے آج تم لوگ آزاد کیے گئے۔

کے موتی نچھاور کرتے ہوئے زمین پر انسانوں کے لیے جو پہلا گھر، مخلوق کی نہیں بلکہ خالق کی، صرف خالق کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ نَصْرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، کہتے ہوئے سر بسجود ہو گئے۔ ابراہیم کا بیت ایل پتھر کی کھودی ہوئی مورتیوں کی گندگی سے پاک ہو گیا۔

عہد نوبت کے جہاد میں شہداء اور مقتولوں کی اٹھارہ سو تعداد:

اور حیرت ہے کہ بکھرا ہوا وحشی عرب جس میں وٹنی، بت پرست، یہودی، عیسائی، صابئی، عقل پرست سبھی ہیں، ان مختلف اقوام و قبائل کے باہمی انتشار، جنگ و جدال کو ختم کر کے ایک پرامن آئینی نظام سلطنت کے ساتھ وابستہ کرنے میں جھوٹوں نے جس قدر بھی جھوٹ چاہا پھیلا دیا، لیکن واقعہ اس قدر اور اسی قدر ہے کہ دس لاکھ مربع میل کی طویل و عریض سرزمین کا پایہ تخت جس وقت کسانوں کا وہی قصبہ ہو گیا تو دس سال کی اس لمبی اور دراز مدت میں وٹنیوں (عربی ہندوؤں) یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں، سب میں سے امن و امان کی اس جدوجہد میں طرفین کے جتنے آدمی کام آئے، ان کی تعداد کروڑ لاکھ بلکہ دو ہزار چار ہزار بھی نہیں، اتنی بھی نہیں جتنے ”نیویارک کی سڑکوں یا لندن کی شاہراہوں پر موٹروں کے نیچے سے روزانہ اٹھائے جاتے ہیں، یا ہندوستان کی معمولی جھڑپوں میں لاشوں کی جو فہرست تیار ہوتی ہے بلکہ

۷۷ (یہ قصص بنی اسرائیل کا ایک حصہ ہے جس میں اسرائیلیوں کو ایک نظریہ میں شَجْدًا وَحِطَّةً کہتے ہوئے داخل ہونے کے لیے کہا گیا تھا۔ مفسرین نے اس کے جو معنی لیے مجھے اس سے انکار نہیں ہے لیکن ”خلقہ قرآن“ کے حساب سے کیا یہ تفسیر بہتر نہیں ہے جو حضور نے عمل کر کے دکھایا۔ کوئی عبادت کے لائق اللہ کے سوا نہیں، اسی کی ستائش ہے، صرف اسی کی جس نے اکیلے (بغیر لڑے بڑے) اپنے بندے کی مدد کی۔

کل لے دے کے سب کی کل تعداد ایک ہزار آٹھ سو ہے یہ ہے خونی پیغمبر کا بہایا ہوا خون یا قصابوں کی وہ ”دکان“ جس کے شور سے گنبد گردان بھی تھرا اٹھا ہے، غیر تو غیر اپنے بھی پریشان ہیں۔

اف! برکنده باد آنکھوں سے بداندیشوں کو صرف وہیں خون نظر آیا جہاں سے انسانیت کی مردہ لاش میں زندگی کا خون دوڑایا گیا، جہاں موت دل کے مردوں کو وہاں زندگی نظر آ رہی ہے اور جہاں سے صرف زندگی مٹی بٹ رہی ہے، انصاف کرنے والوں نے کیسا انصاف کیا، کہ موت کی وادی کے نام سے انہوں نے دنیا میں اس کا پروپیگنڈہ کیا، ایک ہزار آٹھ سو تعداد تو اس وقت ہے جب اس میں بلا وجہ بنی قرظہ^۸ کے ان یہودیوں کو بھی شریک کر لیا جائے، جن کو خود ان کی کتاب اور ان کی شریعت نے ان ہی کی مرضی سے اپنے ہی قانون کے رو سے اس وقت ناپید کیا جب سمجھا گیا کہ اس چھوٹی سی جماعت کی زندگی سے سارے عرب بلکہ ممکن ہے کہ عرب کے اطراف کی بڑی جماعت کی موت پیدا ہوگی، آخر جب کروڑوں مقتولوں والی عالمگیر جنگ کی آگ یہودی^۹ پھونک کی سلگائی ہوئی مانی جاتی ہے تو اگر ان ہی یہودیوں کے متعلق یہ سمجھا گیا تو کیا غلط سمجھا گیا اور صرف یہی نہیں، اسی ایک ہزار آٹھ سو میں بے چارے ان شہید معلموں کو بھی شمار کر لیا گیا ہے جن کو نجد والے اپنے ملک میں وعظ و تلقین، تعلیم و تذکیر کے لیے لے گئے اور معونہ نامی کنوئیں پر ستر آدمیوں کو شہید کر دیا، ان ہی میں وہ دس مبلغ بھی ہیں، جنہیں بے دردی کے ساتھ بلا وجہ رنجیع^{۱۰} کے مقام پر ذبح کر دیا گیا، یہ تو مسلمانوں کی طرف کے شہداء ہوئے، اسی طرح فریق ثانی کے مقتولوں کو اسی تعداد میں

۸ (خندق کی جنگ میں یہودیوں کے روپے اور قریش کے آدمیوں نے مکر مدینہ کو بیس ہزار فوج سے گھیر لیا۔ بنی قریظہ کے یہودیوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا کہ جنگ میں باہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے لیکن اس بے کسی کے وقت جب ان سے مدد مانگی گئی تو ان یہودیوں نے کہا کہ ہم محمد کو نہیں جانتے، حضور نے اس وقت چھوڑ دیا، جب خدا کی آندھی نے عرب کی اس آندھی کو شکست دی تب آپ کو بنی قریظہ کے محاصرہ کا حکم ہوا۔ آخر میں بنی قریظہ والوں نے سعد بن عبادہ کو حکم بنا کر قلعہ کھول دیا۔ انہوں نے ان کے جوانوں کے قتل کا فیصلہ کیا۔

(آنحضرت نے فرمایا کہ کتاب کے مطابق فیصلہ ہے کیونکہ اہل کتاب کی کتاب میں عہد شکنی کی سزا بھی تھی ۱۲)

۹ (یورپ کی گزشتہ عالم گیر جنگ کے متعلق تحقیق نے بلا آخر یہ ثابت کیا کہ اس کی تہہ میں امریکہ اور یورپ کے

یہودی ساہوکاروں کا ہاتھ تھا ۱۲)

۱۰ (ان واقعات کی تفصیل سیرت کی بڑی کتابوں میں پڑھو یاد رکھو میری کتاب ”الحرب والجهاد“ ۱۲)

شریک کر لیا گیا جو بجرم قصاص یا ڈاکہ یا چوری مارے گئے یا گرفتاری کے سلسلہ میں قتل ہوئے لوگ سوچتے نہیں ورنہ دس سال کی اس طویل مدت میں اگر جنگ کا اطلاق کسی معرکہ یا مہم پر ہو سکتا ہے تو وہ ”بدر“ ہے۔ جس میں بائیس مسلمانوں اور ستر قریش کے اسی طرح ”احد“ میں ستر مسلمانوں اور تیس قریشیوں کے آدمی کام آئے بشرطیکہ ہزار پندرہ سو آدمیوں کے مجمع اور ان کی باہمی آویزش کا نام بجائے جھڑپ کے جنگ اور (Battle) رکھا جائے۔

بہر حال قریشیوں سے جو کچھ چھیڑ چھاڑ ہوئی وہ اسی پر ختم ہو گئی نہ ”خندق“ میں بازار قتال گرم ہوا نہ مکہ میں خونریزی ہوئی اس کے بعد ایک دو معرکے یہودیوں سے ہوئے جن میں ”خیبر“ سب سے اہم ہے اس میں اٹھارہ مسلمان شہید اور ترانوے یہودی مارے گئے۔ ”عیسائیوں“ سے ”موتہ“ میں گھمسان کی لڑائی ہوئی لیکن اس گھمسان میں بھی کل مسلمانوں کے بارہ شہیدوں کا حال معلوم ہوا اس کے سوا کچھ ڈاکوؤں کا تعاقب ہے چوروں کا پیچھا کیا گیا باغیوں کی سرکوبی کے لیے کوئی دستہ روانہ کیا گیا جس میں اکثر مواقع میں جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی بہر حال اگر خالص لڑائی اور جہاد کے شہیدوں اور مقتولوں کا حساب کیا جائے تو ان کی تعداد پانچ چھ سو سے زیادہ اس کل دس سال کی مدت کے اندر سارے ملک عرب میں انشاء اللہ ثابت نہ ہوگی حالانکہ مقابلہ میں عرب کے وحشی قبائل طاقتور جمہوریتیں اور بعض سلاطین بھی تھے لیکن جس کو طائف کے بعد سب کچھ دے دیا گیا تھا۔ کیوں سوچا جاتا ہے کہ اس کو یہ کیونکر ملا اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا جس کی زندگی کا ہر واقعہ اس کے کلمہ دعوت و دعویٰ ”لا الہ الا اللہ کی دلیل ہے آخر ان واقعات میں بھی اس کو کیوں نہیں ڈھونڈا جاتا۔ الغرض یہ ہیں کل دس سال اور وہ سارے جنگ و جدال جن کے خون کا افسانہ ہزار ہا بوقلموں رنگوں سے رنگین کر کے دنیا کو سنایا جاتا ہے۔

اب دیکھو جہاں انسان مسجود ملائکہ انسان کی جان ایک پتھر اور مکھی سے بھی زیادہ قیمت نہیں رکھتی تھی اس کی جان تو بڑی چیز ہے اس کے کپڑے کا دھاگہ بھی رات کی اندھیروں میں کوئی نکال نہیں سکتا۔ امن و امان کا دور دورہ ہے عالم پر منطبق کرنے کے لیے انسانی زندگی کے جس آئین و دستور کا نقش مدینہ کے پرچم میں گاڑھا گیا تھا۔ اس کے نیچے چلے آتے ہیں

بے تابانہ چلے آتے ہیں، آدم کے بچے ہر چہار طرف سے چلے آتے ہیں، فوج در فوج چلے آتے ہیں و فود اللہ کا تانا بندھا جاتا ہے۔

پھر کیا مدینہ میں جو پایہ تخت قائم ہوا وہاں منبر کی جگہ تخت بچھایا گیا۔ وہی منبر ہے وہی مسجد ہے وہی جھونپڑے ہیں وہی چڑے کا اکہرا گدا ہے نہ حاجب ہے نہ دربان ہیں، امیر بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے۔ دونوں کے ساتھ ایک معاملہ ہے عجب دربار۔

سلاطین کہتے ہیں، شاہی دربار تھا کہ فوج تھی، علم تھا، پولیس تھی، جلا دتھے، محتسب تھے، گورنر تھے، کلکٹر تھے، منصف تھے، ضبط تھا، قانون تھا۔

مولوی کہتے ہیں مدرسہ تھا کہ درس تھا، وعظ تھا، افتاء تھا، قضاء تھا، تصنیف تھی، تالیف تھی، محراب تھی، منبر تھا۔

صوفی کہتے ہیں خانقاہ تھی، کہ دعا تھی، جھاڑ تھا، پھونک تھی، ورد تھا، وظیہ تھا، ذکر تھا، شغل تھا، تخت (چلہ) تھا، گریہ تھا، بکاء تھا، وجد تھا، حال تھا، کشف تھا، کرامت تھی، فقر تھا، فاقہ تھا، زہد تھا، قناعت تھی۔ کنکریاں دی جاتی تھیں، کہ کھارے کنوؤں کا پانی میٹھا ہو جائے، بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا تھا، جس کو کہہ دیا جاتا تھا پورا ہوتا تھا۔

مگر سچ تو یہ ہے کہ وہ سب کچھ تھا، اس لیے کہ وہ سب کے لیے آیا تھا۔ آئندہ جس کسی کو چلنا تھا۔ جہاں کہیں چلنا تھا جس زمانہ میں چلنا تھا اسی روشنی میں چلنا تھا۔

بیرون عرب میں تبلیغ کا کام:

اور یہ تو عرب کے لیے ہوا۔ عرب ہی کے اندر دیکھو کہ عرب کے باہر کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اسی دس سال کے عرصہ میں مشرق کی سب سے بڑی ”قوت پرشین ایمپائر“ اور مغرب کی سب سے بڑی طاقت ”رومن ایمپائر“ کے ساتھ اطراف و جوانب کے سلاطین کو بھی چونکا دیا جاتا ہے کہ وقت سے پہلے جاگ جاؤ، جو جاگا اس نے پایا، جو سویا اس نے کھویا، کسریٰ نے خط پھاڑا، اس کا ملک پھاڑ دیا گیا، قیصر بھی پھاڑ دیتا اور خدا کرتا کہ پھاڑ دیتا، وہ بھی پھٹ جاتا، لیکن معاملہ کومتوی کر کے اس نے اپنی قوم اور اپنے ملک کی موت کومتوی کرالیا۔

اور اتنا ملتوی کیا کہ گویا وہ فوج آج تک واپس نہیں ہوئی۔ اور خدا ہی جانتا ہے کہ کب واپس آئے ہوگی جسے رومیوں^{۸۲} کی طرف روانہ کر کے دماغ کے ان عجیب و غریب تجربات دینے والے پاک وجود پھر ”دل“ کے حالات میں مستغرق ہو کر اس بستر پر لیٹ گیا، جس پر لیٹنے کے بعد پھر اٹھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اللہم صلی علیہ وسلم

دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس بستر پر لیٹنے کی جو آخری رات تھی اس کے روشن کرنے والے چراغ میں تیل کسی غریب پڑوسی سے قرض کر کے آیا تھا اور جو چادر اس وقت مرض واپس کے مریض پر پڑی تھی جب بعد کو دیکھا گیا تو صرف پھٹا ہوا ایک سیاہ کپڑا تھا، جس کے اوپر تلے پوند لگے ہوئے تھے اس کی زرہ تین صاع پر ایک یہودی ساہوکار کے یہاں گروتھی۔

جاننے کے بعد نہ ماننے کے لیے جھوٹ کے بلوں میں پناہ پکڑنے والو! سوچ رہا ہے دیکھ رہا ہے جو اس بستر پر لیٹا ہوا ہے انصاف کے خونبو! کیا یہی مکہ کا وہ فقیر ہے جس کے متعلق تمہاری گندی زبانوں نے غل مچایا کہ وہ مدینہ کا بادشاہ ہو گیا اور کیا آج ہی اس کا یہ حال ہے دس سال کی اس مدت میں کس نے اس کے گھر روز دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا ایسے بادشاہ کس دنیا میں گزرے جن کے منہ کو جو کے بے چھنے آٹے کی روٹی بھی میسر نہ آئی، فقیروں نے بھی کبھی دو دو تین تین مہینے تک صرف پانی اور خشک چھوہاروں پر زندگی گزاری ہے؟ فاقہ مستوں نے بھی کبھی بھوک کی شدت میں پیٹ پر دو دو پتھر باندھے ہیں؟ کن بادشاہوں کی لڑکیوں کے ہاتھ میں چکی پینے کا گھٹا اور گردن میں پانی بھرنے کے نشان دیکھے گئے؟ ایسی شاہزادی زمین کے کس خطے میں پائی گئی، جس کو اور جس کے بچوں کو دو دو تین دن بھوک کی شدت میں دن کو رات اور رات کو دن کرنا پڑا ہے، بادشاہوں کا قصر کیا اسی کو کہتے ہیں جس کے کھجوروں کے پتوں کے چھپڑے سے بھی آدمی کا سر لگتا ہو۔

۸۲ مشہور محدث ابو بکر بن العربی نے اپنی کتاب احکام القرآن میں ایک روایت نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا فارس (ایران) ایک سینکھ یا دو مار کر ختم ہو جائے گا، لیکن روم (یورپ) کے ایک سینکھ کو مسلمان توڑیں گے تو دوسرا سینکھ نکل آئے گا اور اسی طرح نکلتا چلا جائے گا۔ جب تک اللہ چاہے۔ آج چودھویں صدی کا نصف بھی گزر چکا ہے یورپ کے سینکھ نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ (۱۲)

۸۳ مرض الموت میں اسامہ کا جو دستہ رومیوں کی طرف بھیجا گیا اسی کی طرف اشارہ ہے رومیوں کو آنحضرتؐ کی وفات کی خبر ملی ابھی اس خبر کی مسرت ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اسامہ کے حملہ کی خبر ان کو ملی، رومی گھبرا اٹھے اور بولے کیا یہ لوگ جن ہیں؟ (۱۲)



مدینہ کے بادشاہ کا شاہی محل تو اس وقت بھی موجود ہے اس کے طول و عرض کو تو اب بھی ناپ سکتے ہو باہر میں اس کے سوا کچھ بھی ہو لیکن اندر تو اس کا وہی ہے جو پہلے تھا ۵۴
بہر حال دس سال تک ”دماغ“ کا بھی اسی طرح کھلی روشنی میں تجربہ کرایا گیا جس طرح تیرہ سال تک ”دل“ کے مشاہدات پیش کیے گئے۔

اور تم دیکھو کہ اسی عرب میں ایک طرف ان کا نشہ اتارا گیا، جن کی بڑائی میں خدا کی کبریائی کی بھی گنجائش نہ تھی، تو دوسری طرف ان ہی میں ایک اور نشہ پیدا ہو گیا کہ خدا کی بڑائی کے سوا ان کے اندر کسی کی بڑائی باقی نہ رہے یہی وہ گروہ ہے جو سینا کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملائکہ قدوسیوں کی شکل میں نظر آیا، وہی دعویٰ جس کی دلیلیں مسلسل خود اپنے اندر سے اس دعوے کا مدعی اعلان سے پہلے چکا رہا تھا اسی دعوے کے نسخہ کو ان پر بھی پیش کیا گیا، جنہوں نے جان کر اس کو مانا تھا یہ نسخہ ان کو پلایا گیا۔

اور کسی جنگل یا پہاڑ کے غاروں میں نہیں، تلواروں کی چھاؤں میں اس کی مشق کرائی گئی۔ پلا کر بھی دکھایا جاتا تھا اور چھڑا کر بھی دکھایا جاتا تھا۔ ”بدر“ میں جب پی کر اترے تو اس کے نتائج بھی اس کے سامنے تھے اور ”احد“ میں جو کچھ ہوا ان ہی کی بدولت ہوا، جن سے پینے میں کچھ کوتاہی ہوئی، مکہ جب فتح ہوا تو سب اسی نشہ میں سرشار تھے۔ ”حنین“ میں جب میدان چھوٹا، تھوڑی دیر کے لیے چھوٹا تو تم اس کے میدان کے نقشے میں اور اس کی گھاٹیوں، پہاڑیوں میں اس کے اسباب کو کھوجو! لیکن میں کیا کروں کہ قرآن نے اسی نشہ کی کمی کا ان میں نشان دیا ہے جس کا ان کو تجربہ کرایا جا رہا تھا۔

تم کہتے ہو کہ وہ تیر اندازوں سے بھاگے جو اندر نہیں بلکہ باہر گھاٹیوں، پہاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے اور قرآن کہتا ہے کہ وہ مجاریٹی اور اکثریت کے اس اعتماد سے بھاگے جو ان کے اندر چھپا ہوا تھا۔

”يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْرَبْتُمْكُمْ كَثْرَتَكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا“

”اور حنین کے دن جب اپنی کثرت تعداد نے تم کو مغرور کیا لیکن یہ کثرت تعداد تم

کو فائدہ نہ پہنچا سکی۔“

کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے۔

اگر یہ مقصود نہ تھا تو جس کو طائف سے واپسی کے بعد سب کچھ مل چکا تھا۔ اس کو اس لاؤ اور اس لشکر کی کیا ضرورت تھی یوں بھی تو اس کا داہنا ہاتھ ^{۵۵} عجیب و غریب کمالات دکھاتا تھا، یہ غرض نہ ہوتی تو کیا صرف اسی سے وہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا اور جب جی چاہا تو کیا خاک کی مٹی سے اس نے وہی کام نہیں لیا جو ہولٹرز کے گولوں سے لیا جاتا ہے۔

اندھے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ خون بہاتا تھا۔ جس کا خون بہایا گیا، جس کی داڑھی خون سے دھوئی گئی۔ جس کے دانت توڑے گئے، جس کی پیشانی میں ”زرہ“ کی کڑیاں چھائی گئیں، نابیناؤ! اسی پر الزام دھرتے ہو کہ اس نے خون بہایا۔

چورو! کو تو ال ہی کو الٹا ڈالنتے ہو اور بکف چراغ ہو کر ڈالنتے ہو حالانکہ تریسٹھ سال کی طول مدت عمر میں کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ خونوں میں پلنے والے اس انسان نے خون تو کیا کسی کا بال بھی توڑا تھا ^{۵۶}۔

اسلامی جہاد کی ترتیب:

اف! اگر وہ خون بہانا چاہتا تو پھر ہزاروں کے خون کو صرف ایک کے خون سے کیوں بچاتا، قطرہ بہا کر سمندر کو کیوں باندھتا، یہی یہود جن کا خون ہر زمانہ اور ہر ملک میں تقریباً ہر صدی میں ارزاں رہا ہے اور اب ^{۵۷} تک ہے، جب خون کے مستحق ہو چکے تھے اور ہر اعتبار ^{۵۵} (زبور کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں آنحضرت کو خطاب کرتے ہوئے حضرت داؤد نے فرمایا تیرا داہنا ہاتھ عجائب دکھلائے گا۔ ”قرآن میں آنحضرت کے داہنے ہاتھ کو خدا کا ہاتھ قرار دیا گیا اور ”مارمیت اذ رمیت“ میں بھی داہنے ہاتھ کے کمالات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، مشیت خاک سے دشمنوں کی فوج میں ابتری پیدا ہوئی اس کا ذکر بخاری میں ہے ۱۲)

^{۵۶} (پوری تاریخ میں صرف ابی بن خلف کے حلق میں آپ نے نیزہ کی انی اس وقت چھائی، جب وہ آنحضرت کے قتل کے لیے جنگ احد میں آپ کے قریب پہنچ گیا، آپ نے مکہ معظمہ میں اس سے ایک وعدہ کیا تھا، اس کا ایفا بھی مقصود تھا، ۱۲)

^{۵۷} جرمنی میں ہٹلر نے ان پر زندگی جس طرح تک کی ہے سب کو معلوم ہے۔ یہ تفسیر ہے قرآن کی آیت کی واؤ تَأَذِّنْ رَبُّكَ لِيُعَذَّبَنَّهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يُسْؤِمُهُمْ نَسْوًا، نُعَذَّبُ (الاعراف: ۱۶۷) ”تیرے رب نے جب اعلان کیا کہ قیامت تک یہودیوں پر کسی کو اٹھاتا رہے گا جو ان کو بری طرح عذاب چکھاتا رہے گا“ (۱۲)

سے ہو چکے تھے لیکن ان کے ہزاروں کے خون کو صرف کعب بن اشرف اور رافع بن حقیق دو ہی آدمیوں کے خون سے کیوں محفوظ کر دیا گیا۔ بہت بڑا خیر وہ شر ہے جس کے ذریعہ سے کسی عظیم و جلیل شر کا سدباب ہوتا ہے قصاص میں زندگی ہے آخر اس قانون میں اور کیا ہے بلاشبہ ان دونوں کی موت میں ان تمام یہودیوں کی زندگی کی ضمانت تھی جو ان کے بعد زندہ رہے۔ پھلے پھولے ورنہ جو منصوبہ ان دونوں نے پکایا تھا اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ عرب سے یہودیوں کا اسی وقت نام و نشان جاتا رہتا جیسا کہ ہمیشہ اسی قسم کے بدباطن یہودیوں نے اپنی قوم پر ہر ملک میں ہر زمانہ میں زندگی تلخ کی ہے جس کا سلسلہ اب تک جاری ہے لیکن سچ یہ ہے کہ بنی قریظہ کی چھوٹی جماعت اگرچہ ان ہی کی شریعت ان ہی کے حکم سے مٹائی گئی لیکن اسی کے ساتھ کیا اس چھوٹی جماعت کی موت میں عرب کے سارے یہودیوں کی زندگی مستور نہ تھی۔ سنگدل اور ظالم ہے وہ جراح جس نے ایک انگلی کے لیے پورے جسم کو سڑنے دیا۔

ازواج مطہرات:

آخر میں ان تمام تجربات کے سلسلہ میں نادر ترین تجربہ یہ ہے کہ یہی دس سال کا زمانہ ہے اس کے بعد چند سال گزر چکے ہیں اور اب وہی جو عرب کے لیے بھی تھا، عجم کے لیے بھی تھا اور عورتوں کے لیے بھی تھا، مردوں کے لیے بھی تھا۔ زندگی کے آخری دنوں میں ارادہ فرمایا جاتا ہے کہ جس طرح مردوں میں قدوسیوں کی یہ آخری جماعت پیدا کی گئی ہے سارے جہان کی عورتوں کے لیے قیامت تک نسل انسانی میں جو عورتیں پیدا ہونے والی ہیں ان سب کے لیے ان کی تعلیم کے لیے تربیت کے لیے ان کے نمونہ کے لیے عورتوں کی بھی ایک جماعت تیار کی جائے شاید یہ قدرت کی طرف سے تھا اور اس کی کونسی بات قدرتی نہ تھی کہ جہاں سے دنیا کے اس عالمگیر نقشے اور حیات انسانی کے کامل دستور العمل کا جھنڈا اٹھایا جاتا ہے۔

مدینہ میں دنیا کے مذاہب کا اکھاڑہ:

وہ نہ ”لندن“ ہے نہ ”پیرس“ حتیٰ کہ ”ممبئی“ بھی نہیں اور ”کلکتہ“ بھی نہیں بلکہ سو نچو تو بیابان کی اس کو ردہ آبادی کی تمدنی و عمرانی لحاظ سے وہ حیثیت بھی نہیں جو ہندوستان کے معمولی

اضلاعی شہروں اور قصبوں کی ہے لیکن دنیا کے اسی دور افتادہ ویران ریگستان، نخلستان میں حیرت ہے کہ سارے جہان کے مذاہب و ادیان اس لیے اس کے آگے پیش ہو جاتے ہیں کہ تردید و تکذب نہیں بلکہ سب کی تصدیق سب کی تصحیح سب کی تکمیل عملی شکل میں ممکن ہو کہ وہ ”مکذب“ نہیں بلکہ ”مصدق“ تھا اور یہی اس کے دعویٰ کا سب سے بڑا امتیازی نشان ہے۔

ہندو مذہب تو وثیقت کی شکل میں مکہ ہی میں موجود تھا۔ مدینہ آنے کے بعد اس کے آگے دنیا کا دوسرا عالمگیر مذہب یہودیت بھی سامنے آ گیا اس کے ساتھ خود ”مدینہ“ میں وہ ”نصرانیت“ بھی موجود تھی جس کے زیر اثر دنیا کی آبادی کا بڑا حصہ اس وقت بھی تھا اور اس وقت بھی ہے۔ اس کے حلقہ میں ”مجوسی“ اور ایران کے آتش پرست^{۵۹} زردشتی بھی شریک تھے اور اردگرد میں ایک فرقہ صابیوں کا بھی تھا جس کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ عرب کے صابیوں کا تعلق بودھ مذہب کے سادھوں سے تھا یا ان کے سوا کوئی اور فرقہ تھا جسے دنیا اب نہیں جانتی ہے۔

الغرض کوہستان کی اس چھوٹی سی بہتی میں یہودیت، عیسائیت، ہندویت یا وثیقت، مجوسیت اور چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ بودھیت اپنے تمام مفاسد کے ساتھ موجود تھے جن کے دھونے اور جن سے پاک کرنے کے لیے وہ اٹھایا گیا تھا پس اس نے ان سب کو دھویا ان سب کو پاک کیا صاف کیا جس میں جو کئی تھی سب کو پورا کیا اور قیامت تک کے لیے پورا کیا۔

اور جس طرح دنیا کے ہر مذہب کے مردوں میں قدرت نے اس کو کچھ لوگ دیئے دیکھو کہ قریب قریب کچھ اس طرح سے زندگی کے آخری دنوں میں تقریباً دنیا کے ان تمام بڑے مذاہب کی عورتوں میں سے ایک ایک نمائندہ اس کی خدمت میں قدرت کی ہی جانب سے حاضر کی جاتی ہے۔ عورتیں اس کی خدمت میں اگر عورتوں کی حیثیت سے آئیں تو کیا وجہ تھی کہ جب مکہ میں ہر قسم کی یہی عورتیں اس کے آگے پیش کی گئی تو اس بزرگ خاتون کے مقابلہ میں جو عمر میں ان سے پندرہ سال بڑی تھیں پچاس سال کی عمر تک کسی کو پسند نہیں کیا پچیس سال کی جوانی سے پچاس سال کی عمر تک میں کون نہیں جانتا کہ بجز حضرت خدیجہ رضی اللہ

۵۹ (سلمان فارسی، ہاذین اقرع بن حابس اور بھی چھ ہیں یہ پہلے مجوسی تھے اور حجر کا پورا علاقہ عرب میں زردشتی

دین رکھتا تھا قرآن میں مجوس کے نام سے ان کا ذکر کیا گیا ہے ۱۲)

۶۰ (تفصیل کے لیے دیکھو میری کتاب صابون ۱۲)

تعالیٰ عنہا کے آپ نے کسی سے نکاح نہیں فرمایا جو نکاح کے وقت چالیس سال کی ہو چکی تھیں اور اس سے پیشتر ان کے دو شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا جو عورت کو عورت کی حیثیت سے اپنے گھر لاتا ہے، کیا چالیس سال کی بیوہ کے ساتھ بچاس کی پوری زندگی گزار سکتا ہے۔

ہاں! جب سب کچھ ہو چکا ”دل“ کا بھی تجربہ ختم ہو چکا ”دماغ“ کے تجربات بھی دنیا کے سامنے آچکے۔ قتل و خون، فتنہ و فساد کا متلاطم سمندر ملک عرب امن و امان، راحت و آسائش کی چھاؤں کے نیچے زندگی کی قیمت حاصل کرنے لگا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگرچہ عرب کا اکثر حصہ ہمیشہ سے کسی غیر عرب کا محکوم نہ تھا لیکن تاہم ان میں بڑوں نے چھوٹوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور پھر سب مل کر وہی مخلوقات کی غلامی کی رسیوں میں گھسٹ رہے تھے، اس غلامی سے ان کو حقیقی آزادی میسر آئی۔ انسانیت اپنے فطری مقام سے ہٹ کر موج کھائی ہوئی ہڈی کے مانند بے عین تھی، بے کل تھی پھر اس کو اپنا وہ اصلی مقام نصیب ہوا، جس پر پہنچے بغیر قلوب انسانی مطمئن نہیں ہو سکتے، ایسی صورت میں پھر یہ کیسا بداندیشہ اور خبیث خیال ہے کہ آزادی کی اس نعمت سے ایک پورے طبقہ نصف حصہ کو محروم رکھا جاتا، یہ سچ ہے کہ ان کا ان بے زبانوں کا کسی نے خیال نہیں کیا، رحم کی نگاہ کسی کی ان پر نہیں پڑی، لیکن کیا کہتے ہو کہ رحمۃ للعالمین کی نظر کرم سے بھی یہ بے چاریاں محروم رہیں، جس طرح اب تک تھیں ایسا نہیں ہو سکتا تھا جو سب کے لیے تھا، وہ سب ہی کے لیے ہوا اور یہی ہونا بھی چاہیے تھا اس نے بے سمجھ خام فہم، ناتجربہ کار عورتوں کا انتخاب نہیں کیا کہ ان کو دوسروں کے لیے نمونہ بنانا تھا اور دیکھو! وقت بھی کم ہے فرصت تنگ ہو رہی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ جن جن مختلف طبائع اور مزاج، مختلف مذاہب اور ادیان کی سن رسیدہ، فہمیدہ و سنجیدہ بیوہ عورتیں جو زندگی کے سرد و گرم کا تجربہ کر چکی تھیں، ان کی ایک برگزیدہ پاک منتخب جماعت کو مختلف اسباب و وجوہ کے پردہ میں قدرت نے اس کی خدمت میں اس وقت مہیا کیا، جب اپنے فرض سے سبکدوشی کا وقت آخر ہو رہا تھا، اس کی زندگی کا یہی آخری کارنامہ تھا، کھل چکا تھا کہ مکہ فتح ہوتا ہے خدا کی زمین کا ”مرکز“ چھوٹے خداؤں کی نجاست سے پاک ہوتا ہے جس کے بعد اس کا کام ختم ہو جاتا ہے۔

91 (کیا آنحضرت کے اس قول کا یہی ترجمہ نہیں ہے؟ مالی فی النساء من حاجہ۔ قدر واہ داری (عورتوں کے ساتھ

میری کوئی ضرورت وابستہ نہیں، ۱۲)

میں بتا چکا ہوں کہ ”غیب“ اور اس کے ”آیات کبریٰ“ جس وقت کھولے گئے تھے آخر میں بانی ”کعبہ“ ابراہیم علیہ السلام کا دیکھنا اسی کی دلیل تھی کہ کعبہ کی تطہیر اس کا آخری کام ہو گا۔ ”مرکز“ اور ”ام القریٰ“ پر قبضہ دلانا اصل کام تھا۔ اس کے بعد مفصلات اور ”ام القریٰ“ کے قری جو کعبہ کے چاروں طرف زمین کے آخری حدود تک پھیلے ہوئے ہیں ان کا کام آنے والوں کے سپرد کر دیا جائے گا اور اسی غیبی مکاشفہ میں نہیں بلکہ مسلسل ایسے مکاشفے مختلف پیرایوں میں ہو رہے تھے جن کا مطلب یہی تھا کہ کام ختم ہو رہا ہے پس اس کام کو کامل طور پر ختم کرنے کے لیے مردوں کے ساتھ عورتوں کی تعلیم و تربیت^{۹۲} کا کام اپنی آخری زندگی میں اس کو اپنے سر لینا پڑا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ عورتیں خدمت مبارک میں اسی حیثیت سے رہتی جس حیثیت سے مردوں کی ایک منتخب اور چیدہ جماعت ساتھ رہتی تھی لیکن دماغ کی بیداری کا یہ کیسا روشن تجربہ ہے کہ اس نے مصنوعی مذہبی مقتداؤں اور روحانی پیشواؤں کی ان مجرمانہ پیش قدمیوں کا راستہ ان عورتوں سے نکاح کر کے ہمیشہ کے لیے مسدود کر دیا۔

ہیکل کی خدمت کے لیے عمران^{۹۳} کی عورت نے صرف ایک لڑکی پیش کی تھی پھر دیکھو! اس کنواری کی آڑ میں چہ چوں پڑا گر جاؤں پڑا ان کے اماموں پڑا خطیبوں پڑا رہبانوں پڑا بطریقوں پڑا کتنی کنواریاں روز بھینٹ چڑھائی جاتی ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کسی ایک اجنبی عورت کو نزدیک کی وہ حیثیت دی جاتی جو باہر میں مردوں کو حاصل تھی تو کون اندازہ کر سکتا ہے کہ بعد کو آدم روہلیسوں کے لیے قرب و نزدیکی کا حیلہ کن خباثوں اور شرارتوں کی بنیاد بن جاتا۔ جب کوئی نمونہ نہیں موجود ہے اس وقت تو بغیر نمونہ کے زندگی گزارنے والوں نے فتنے برپا کیے خدا نخواستہ اگر ”نیم بیضہ“ بھی میسر ہو جاتا تو پھر بیخ میں کتنے ہزار مرغ گتھے جاتے اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے!

۹۲ (اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو یا اے نبی کی عورتوں اگر تمہیں دنیا اور دنیا کا سنگار بناؤ پسند ہے تو آؤ ہم تمہیں جدا کر دیتے ہیں یاد کرو ان آیتوں کو جو کتاب میں آئیں نازل ہوئیں اور حکمت کی باتیں قرآنی آیتوں کی ان تراجم کا کیا مطلب ہے ۱۲)

۹۳ (مشہور قصہ ہے حضرت مریم کا ہے کہ ان کی والدہ امرات عمران نے نذر مانی کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اللہ کی نذر ہے اتفاق سے لڑکی پیدا ہوئی انہوں نے اسی کو ہیکل سلیمان و بیت القدس کے نذر کر دیا ان کے اس نمونہ نے عیسائیوں میں ”ننوں“ کی جماعت پیدا کی جن کے مفاسد سے انسانیت چیخ اٹھی ہے ۱۲)

الغرض ان عورتوں کو بیوی کا مقام عطا کیا اور جس کو انسان سوچ نہیں سکتا اس حد تک ان کے ساتھ حقیقی عدل اور برابری کا نمونہ اس نے پیش کیا جس کا ”دماغ“ عالمگیر حکومتِ سبست ہمہ گیر تعلیم و تربیت کی ابھی ہوئی بیچ و در بیچ گتھیوں کو سلجھانے میں اسی وقت مصروف تھا جس وقت ”عائلی“ اور ”خانگی“ کی تولید گیوں کو بھی بہ کشادہ پیشانی حل کر رہا تھا اور اسی آسانی کے ساتھ حل کر رہا تھا کہ خواہ اس کی مدت کتنی ۹۳ ہی کم ہو لیکن بداندیشوں یا وہ خیالوں کو دور سے زندگی ایسی سلجھی ہوئی خوشگوار لذت نظر آئی کہ بدبختوں نے اپنے اندر برے خیالات پکائے گویا بیچ بیچ اس خیر میں کوئی شر نہیں اور اس راحت میں کوئی زحمت نہیں تھی ایک بیوی کے تعلقات کی شیرینی کو مسلسل تلخیوں سے بدلنے والے کیا یہ سوچ سکتے ہیں البتہ اس کا اندازہ ضرور کر سکتے ہیں کہ چند بیویوں کے تعلقات کا خوشگوار رکھنا فطرت انسانی کا اعجاز نہیں تو اور کیا ہے؟ بلاشبہ یہی ایک عائلی تجربہ بھی ان بددماغوں اور بد عقلوں کے لیے کافی ہے جو جاننے کے بعد ماننے سے اس لیے ہچکچاتے تھے کہ ”دل“ میں تو نہیں، لیکن ”عقل“ اور ”دماغ“ کے نظم میں ان کو بد نظمی کا اندیشہ ہوا۔ جس کی زندگی کا ہر شعبہ شخصی، عائلی، خاندانی، قومی، سیاسی، صرف ضبط اور نظم ہے اس کے متعلق یہ دوسرے خود سوچنے والوں کی کیا عقلی بد نظمی کی کھلی دلیل نہیں ہے؟ یہی نہیں بلکہ سچ یہ ہے کہ زندگی کے اس قلیل حصہ کا کوئی دقیقہ کوئی نکتہ ایسا نہ تھا جو نگاہ سے اوجھل ہو دیکھ چکے کہ دنیا کی عورتوں کے لیے جو نمونہ بنائی گئیں ان میں سب کی سب عمر رسیدہ تجربہ کار بیوہ عورتیں ہیں جیسا کہ مردوں کے لیے جو جماعت بنائی گئی ان میں زیادہ تر تجربہ کار سردو گرم چشیدہ لوگ تھے۔ ایک ایک ان میں ایسا تھا جو ملکوں پر بھاری قوموں پر گراں ثابت ہوا۔

۹۳ (ظاہر ہے کہ آنحضرتؐ کے نکاحوں کا سلسلہ ہجرت کے بعد شروع ہوا اور اس میں بھی عموماً آخر عمر میں حساب سے معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر تین ساڑھے تین سال سے زیادہ زمانہ ان ازدواج کو نکاح کے بعد نہ ملا اور یہی زمانہ آنحضرتؐ کے جہادی اور حج وغیرہ اسفار کا ہے اس کا اور عدل کے قانون پر شدت کے ساتھ عمل پیرا ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ تریسٹھ سال کی پوری زندگی میں عموماً ان بیویوں کے پاس آنحضرتؐ کے قیام کی مدت تین ساڑھے تین مہینے سے زیادہ نہیں جو تعلیم کے لیے بھی کافی ہے اور جن ہلکوک و شبہات کا پروپیگنڈا دشمنوں نے کیا ہے اس کی تردید کے لیے بھی یہ سب کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے اتنی شادیاں کیں لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ کب ہوئیں اور ان عورتوں کے ساتھ قیام کی مدت تریسٹھ سال کی عمر میں کتنی ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھو میری کتاب ”ازواجِ مطہرات“)

حضرت عائشہ صدیقہ کی حیثیت:

لیکن دقیقہ سنجیوں، نکتہ نوازیوں کے اس سلسلہ میں انتہا اس وقت ہوتی ہے جب کہ ایک طرف اگر مردوں کے نمونہ میں ایک ایسا نمونہ ہے جس کا ”دل“ جس کا ”دماغ“ جس کا ظاہر جس کا باطن ہر قسم کے اجنبی اثرات سے قطعاً آزاد ہے اسی صحبت میں اس نے آنکھیں کھولیں، ان ہی کی گود میں اس نے ہوش سنبھالا، آخر وقت تک وہ اسی حال میں رہا۔

پھر جس طرح مردوں کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شکل میں ایسا نمونہ دیا گیا جو دو سال کی عمر سے اس وقت خدمت مبارک سے علیحدہ ہوئے جب لوگوں نے مرقد انور سے ان کو نکلتے دیکھا۔

کیا ظلم نہ ہوتا اگر بے زبان عورتوں کو اس بے نظیر ناگزیر نمونہ سے محروم رکھا جاتا یہی وجہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ سن رسیدہ اور ادھیڑ بلکہ بعض بوڑھی عورتوں کے اسی مجمع میں وہ ایک طاہرہ طیبہ صدیقہ کنواری بیوہ صاحبہ بھی ہیں جن کو آپ نے اپنے زیر اثر سات ہی سال میں لے لیا اور قبل اس کے کہ ان کا ”دل“ ان کا ”دماغ“ کسی غیر نبوی اثرات کو غیر شعوری طور پر جذب کرے، نویں سال کی عمر میں اپنی رفاقت میں لے لیا۔ عموماً سفر و حضر میں ساتھ رکھا پھر دیکھو کہ جس طرح مردوں کے مظہر عجائب و غرائب وجود سے دنیا کو اگر وہ سب کچھ ملا جو کسی دوسرے سے نہیں ملا تو کیا ٹھیک اسی طرح اس عجیب و غریب ذہین و ذکاؤ، فضل و کمال، تقویٰ و عفت کے سرچشمہ سے دنیا کو جو دولت تقسیم ہوئی صرف عورتوں ہی میں نہیں کہ وہ تو ان کا گروہ ہی تھا، غالباً مردوں کو بھی کسی دوسرے سے اتنا نہیں ملا

محدثین سے پوچھو! وہ کیا کہتے ہیں! ۹۵

الغرض ہر قسم کے شکوک و شبہات و وساوس و اوہام کی تاریکیوں ادنیٰ سے ادنیٰ تاریکیوں کو پھاڑتا چیرتا ہوا، دعویٰ کا وہ آفتاب جس کی صبح کا سپیدہ حرا کے دامن سے پھوٹا تھا ”مکہ“ کے افق سے چڑھتا ہوا تیس سال کی مدت میں مدینہ کے سمت الراس پر پہنچ کر انتہائی کمال و جلال کے ساتھ دیکھو کہ کس شان، کس آن کے ساتھ چمک رہا ہے۔ آفتاب! دعویٰ کا یہ عجیب و غریب آفتاب جس کے طلوع سے پہلے بھی روشنی تھی اور جس کے ساتھ بھی روشنی ہے

جس کے باہر بھی روشنی جس کے اندر بھی روشنی ہے وہ خود بھی نور ہے جس سے نکلا وہ بھی نور ہے "نور علی نور" کا یہی نورانی نظارہ جس کو دنیا کی آنکھوں کے نور نے کبھی نہیں دیکھا تھا لیکن ہمیشہ دیکھتی رہے گی سب کو دیکھا جائے گا سب دیکھ رہے ہیں ظاہر کے باطن کے دل کے دماغ کے تجربات بینہ کی شعاعوں سے آسمانی علم اور لاہوتی عرفان کا یہ آفتاب دمک رہا ہے۔ چمک رہا ہے بلکہ سچ پوچھو تو ہنسمک رہا ہے لہک رہا ہے چمک رہا ہے۔

عرب کا وسیع صحرا اس کے لیے تنگ ہے وہ بڑھنا چاہتا ہے طوفان کی طرح بڑھنا چاہتا ہے آندھی کی طرح بڑھنا چاہتا ہے اور دیکھو کہ وہ بڑھ گیا چڑھ گیا ساری دنیا پر پھیل گیا اور اب تک اسی آب و تاب جاہ و جلال کے ساتھ کائنات کے افق پر اسی طرح چمک رہا ہے جس طرح وہ اس وقت چمک رہا تھا جب وہ عرب سے باہر نکلا یقین و قطعیت کی تیز اور ٹھنڈی روشنی میں اس کو آج والے بھی اس طرح پار ہے ہیں جس طرح کل والوں نے اس کو اس وقت دیکھا تھا جس وقت وہ ان کو ان کی ایک بڑی جماعت کو اپنی زندگی کے عمیق سے عمیق باریک سے باریک پہلوؤں کا کھلے بندوں علانیہ تجربہ کر رہا تھا۔

گلیلی جھیل^{۹۶} کے چند ماہی گیر یا گدھ دیش^{۹۷} کے گداگر بھکشو نہیں بلکہ ہزار ہا انسان ایسے انسان جن پر اس عہد کی ساری بڑائیاں ختم ہوتی تھیں ان میں بادشاہ بھی تھے اور دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ان میں کمانڈر بھی تھے اور دنیا کے سب سے بڑے کمانڈرز ان میں دماغ والے بھی تھے سب سے زیادہ دماغ والے ان میں دل والے بھی تھے سب سے زیادہ روشن^{۹۸} دل والے الغرض انسانیت کی جتنی اونچی سے اونچی منزلیں سوچی جاسکتی ہیں تجربہ کاروں کی یہ جماعت ان کی آخری بلندیوں پر ساری دنیا کے آگے مضبوطی کے ساتھ قدم جما کر اس کا ثبوت پیش کر رہی تھی کہ اس وقت دنیا میں ان سے اونچا کوئی نہیں ہے کہیں نہیں ہے۔

نبوت اور کسی عجب نبوت! تجربہ! اور کیسا عجیب تجربہ! کتنا روشن تجربہ! کتنا نکمرا ہوا صاف تجربہ ہر قسم کی آلائشوں اور رکدورتوں سے پاک و صاف تجربہ کتنی عظیم دانائیوں کا پرکھا

۹۶ (حضرت مسیح علیہ السلام نے جس جھیل کینارے حواریوں کو پہلا وعظ کیا ۱۲)

۹۷ (بدھ کی تبلیغی جدوجہد کا مرکز جس کا اب بہار نام ہے پہلے گدھ دیش نام تھا جن لوگوں کو وہ تبلیغ کے لیے مرید بناتا تھا ان کو بکشو کہتے تھے بھیک مانگ کر پیٹ پالتے تھے ۱۲)

۹۸ (خلفاء راشدین اور صحابہ کے حالات جاننے والے کیا اس میں شک کر سکتے ہیں ۱۲)

ہوا تجربہ کتنی نازک ذہانتوں کا جانچا ہوا تجربہ کتنی روشن فطرتوں کا ناپا ہوا تجربہ کتنی بے روک بے جھجک طبیعتوں کا بے لاگ تجربہ کتنے متوازن معتدل دماغوں کا نپاتلا تجربہ چند نہیں فوج ورفوج نسل آدم کی غٹ کی غٹ جوق جوق افراد کا تجربہ اتنے افراد کا تجربہ کہ دنیا کے کسی مسئلہ یا حقیقت کے تجربہ کے لیے نہ آج تک انسانوں کی اتنی بڑی جماعت اکٹھی ہوئی اور نہ شاید آئندہ ہو سکتی ہے۔

تجربات و مشاہدات کا یہی حیرت انگیز ذخیرہ تھا جس کی حفاظت و نگرانی کا فرض کسی خانقاہ کے درویشوں یا کسی مدرسہ کے معلموں یا کسی انجمن کے ممبروں یا کسی کانفرنس کے دفتر یوں یا کسی افسانہ نگار مورخ کی انگلیوں کے سپرو نہیں کیا گیا بلکہ سب جانتے ہیں کہ زمین پر روئے زمین پر اس زمانہ کی جو سب سے بڑی قاہرہ سلطنت تھی اس نے اپنا پہلا فریضہ بھی اسی کی حفاظت و تبلیغ قرار دیا اور اس کا آخری فریضہ بھی یہی تھا درمیان کے جتنے مقدمات تھے وہ صرف اسی مقصد کے حصول کے لیے ذرائع تھے دنیا کی اس سب سے بڑی سلطنت نے اپنی ہر قسم کی قوتوں کو صرف اسی کی نگرانی اور نشر و اشاعت کے لیے مخصوص اور محدود کر دیا۔ طاقت کی ان آہنی زنجیروں کی بندش میں حکومت ہی کی سرپرستی میں اس کی تاریخ کا آغاز ہوا اور دیکھو کہ مسلسل اسی طرح ایک حکومت دوسری حکومت کو ہی ودیعت سوپتی چلی آئی حالانکہ زمانہ کی اس طویل و دراز مدت میں زمین کے مختلف علاقوں میں باہم ان سلطنتوں کے دوسرے اغراض و مقاصد میں خواہ جس قدر بھی اختلاف رہا ہو لیکن اس آسانی و ودیعت ان ”درخشاں تجربات بینہ“ ان ”یعنی مشاہدات“ کی غور و پرداخت، تبلیغ و حفاظت میں سب کے نقاط ارادے قطعی طور پر متحد تھے بلکہ ہر حکومت نے کوشش کی سعادت کے اس سلسلہ میں جتنا زیادہ حصہ اس کو مل سکے اس کے حصول میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا جائے۔ اس کے لیے مدارس کھولے گئے خانقاہوں کا جال بچھایا گیا، مجالس ترتیب دی گئیں، حلقے قائم ہوئے، تصنیف و تالیف کا باب کھولا گیا اور بڑے بڑے عظیم پیمانوں پر کھولا گیا۔ ایسے پیمانوں پر کھولا گیا کہ شاید دنیا کے کسی ایک فن ایک علم کے متعلق نہ کبھی دنیا میں اتنے بڑے بڑے عظیم الشان مدرسے کھلے نہ تصنیفی کوششوں کا اتنا عظیم حصہ انسانی تاریخ میں کسی ایک علم یا فن کو ملتا جتنا کہ اس عجیب و غریب نبوت کے تجربات و مشاہدات کو ملا اور یونہی مسلسل بغیر کسی انقطاع اور کسی وقفہ کے ایک قرن سے دوسرے قرن تک ایک نسل سے دوسری

نسل تک نبوت کا یہ لازوال ابدی سرمدی قیم خزانہ منتقل ہوتا رہا اور اس وقت تک ہوتا رہا ہے ہوتا چلا جائے گا صرف یہی نہیں بلکہ ہر پچھلے طبقہ میں تم دیکھو گے نبوت کے اس تجربہ کی گواہی ادا کرنے والوں میں اضافہ ہوتا رہا اور کیسا اضافہ؟ ایک اور دو کی نسبت سے نہیں ایک اور تین کی نسبت سے نہیں دو گنے اور تگنے کی حد تک کا اضافہ نہیں بلکہ بلا مبالغہ ایک اور لاکھ کی نسبت سے یہ اضافہ بتدریج بڑھتا رہا اور بڑھ رہا ہے اور بڑھتا رہے گا تا ایں کہ ساری نسل اس کی گواہ بن جائے۔

اور اسی تدریجی اضافہ کی نسبتوں کے ساتھ سلطنتوں کے پر جلال پر شوکت جلو بادشاہوں کی شاہانہ اور کڑے پہرے علماء کی سخت ترین ماہرانہ چوکی فقراء و صوفیاء کی باوقار پر عظمت نگرانی اور امت مرحومہ اسلامیہ کی فطری بیدار دماغی طبعی ذکاوت حسی کے حصار میں صدیوں اور سالوں کا کیا ذکر ہے بلا خوف و تردید کہا جاسکتا ہے اور کہنا چاہیے اس کے سوا جو کچھ کہا جائے گا جھوٹ ہوگا کہ ایک لمحہ ایک پل کے ادنیٰ ترین حصہ کے انقطاع کے بغیر ٹھیک اسی آن بان اسی جج دمج کے ساتھ امت کے ان افراد کو ملتا رہا ہے۔ اس وقت تک مل رہا ہے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے رسول کی صحبت سے فیض یاب نہیں ہیں لیکن اسی کے ساتھ نہ ان کا رسول ایک سیکنڈ کے لیے ان سے اوچھل ہوا اور نہ وہ اپنے رسول سے غائب ہوئے سعادت صحبت سے بہرہ مند اگر کہہ سکتے تھے اور ان کو کہنے کا حق تھا کہ وہ اپنی نمازوں میں وہی پڑھتے ہیں جو ان کا رسول پڑھتا تھا (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں جس طرح وہ کھڑا ہوتا تھا اسی طرح جھکتے ہیں جس طرح وہ جھکتا تھا اسی طرح زمین پر پیشانی رکھتے ہیں جس طرح وہ پیشانی رکھتا تھا تو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جن کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی ہر قرن ہر صدی بلکہ اس وقت بھی جہاں کہیں ہیں قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی وہی پڑھتے ہیں جو ان کا رسول پڑھتا تھا؟ اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں جس طرح وہ کھڑا ہوتا تھا اسی طرح جھکتے ہیں؟ جس طرح وہ جھکتا تھا؟ اسی طرح زمین پر پیشانی رکھتے ہیں جس طرح وہ رکھتا تھا۔ سمجھوں نے تو خدا کی تصویر کھینچی لیکن ایسا کون ہے جس کی بندگی کی تشکیل اس طرح کی گئی۔



ہو بہو من و عن جیسا کہ وہ تھا وہ مشکل کیا گیا کیا جا رہا ہے اور اس کا مل یقین کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ قطعاً وہ وہ واقعات پیش نہیں آئے جو پہلوں کے ساتھ پیش آئے۔ ہاں! جس طرح پہلوں کی کتب مہنئی گئیں ان کو ان کے رسولوں اور ان کے ساتھ جدا کیا گیا۔ کیا کوئی دکھا سکتا ہے ان کے ساتھ بھی سال دو سال کے لیے نہیں روز دو روز گھٹنے دو گھٹنے بلکہ سیکنڈ دو سیکنڈ کے لیے کبھی (لا فحلۃ اللہ) ایسا واقعہ پیش آیا اور جس نے دنیا کے کسی گوشہ میں کبھی ایسا ارادہ کیا کیا مسلسل نہیں دیکھا گیا جس نے چھیننا چاہا وہی چھینا نہ گیا۔ جس نے جدا کرنے کا خیال کیا وہی جدا کیا گیا یہی ہوتا رہا ہے یہی ہوتا رہے گا۔ جس پر یہ گریں گے وہ بھی ٹوٹے گا۔ جو ان پر گرے گا وہ بھی چکنا چور ہوگا پھٹے ہوئے نہیں بلکہ تاریخ کے کھلے ہوئے مسلسل اوراق میں یہی لکھا ہوا ہے یہی لکھا جائے گا۔

بہر حال یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا اس کے بالآخر تاریخ کے اس عجوبہ طراز عہد میں نسل انسانی داخل ہو گئی جس میں ہر بعید قریب ہر دور نزدیک بلکہ ہر شاہد ہر غائب حاضر ہو گیا مکانی فاصلے حذف ہو گئے اور وہی دنیا جو کبھی متعدد دنیا کبھی جاتی تھی ایک دنیا بلکہ اگر کہو تو کہہ سکتے ہو کہ ایک بستی ہو گئی۔ زمانی مسافتیں کم ہو گئیں بلکہ شاید زمانہ کی تین قسموں اور تین حصوں میں سے ایک حصہ ماضی کا تقریباً قائل ذکر نہیں رہا کہ اب جو گزرتا ہے اب نہیں گزرتا ہے اور جو غائب ہوتا ہے حاضر رہتا ہے وہی نہیں جنہیں دنیا میں کچھ اہمیت حاصل ہے بلکہ دنیا کی ادنیٰ ادنیٰ پیداوار جو کبھی پیدا ہونے کے ساتھ ہی مٹ جاتی تھی وہ بھی اب انٹ ہو گئی قدرت نے اپنی پوشیدہ طاقتوں کا خزانہ برق تاز برق لاسکی فون وغیرہ کی شکلوں میں فیاضی کے ساتھ وقف عام فرمایا ہے۔ آخر آج کون کن سکتا ہے ان ذرائع اور وسائل کو جن کے ذریعے سے دنیا کے حوادث واقعات تحریریں تقریریں محفوظ ہو رہی ہیں بزم و بازار آج یہ چیزیں ماری ماری پھرتی ہیں اور ہر اعلیٰ و ادنیٰ کو میسر ہیں۔ آج کوئی "امانت کی اندر سجا" اور شرز کے ناول کو مٹا نہیں سکتا پھر یہ اندیشہ اب کون کر سکتا ہے کہ تجربات کے ان ذخیروں کو اب کوئی حادثہ فنا کر سکتا ہے؟ ان ساز و سامان کے بعد کس قدر عجیب ہے اگر کہا

۱۰ (ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ نے خوب ادا فرمایا)

پاسپائل مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے

ہے عیاں کتبہ ہر تار کے افسانے سے

جائے کہ جو رسول عرب میں پیدا ہوئے تھے وہ عرب میں ہی پیدا ہوئے تھے اور جس کی ولادت چھٹی صدی ہجری میں ہوئی تھی وہ چھٹی صدی میں ہی ہوئی تھی۔ اس زمانے کے جب غائب کو حاضر اور دور کو قریب سمجھا جاتا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ پھر ان تمام غائبوں میں سے جو سب سے زیادہ حاضر اور ایسا حاضر کہ بلا مبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ اتنا حضور ہم میں سے کسی کو خود اپنے سامنے نہیں ہے۔ ان تمام قریبوں میں جو سب سے زیادہ قریب اور اتنا قریب ہے کہ خود ہم اپنے سامنے اپنے کو اس قدر قریب نہیں پاتے۔

آخر ہم میں کون ہے جس کے دماغ میں اپنی پیدائش، طفولیت، شباب، کہولت، خلوت، جلوت کے تمام واقعات اور اس کے تمام پہلو اتنی صفائی کے ساتھ موجود ہوں جتنی تابناکی کے ساتھ دنیا اس شخص کے متعلق جانتی ہے جو اگرچہ آج سے صدیوں پہلے عرب میں ظاہر ہوا لیکن جس کے ظہور کی شدت ہر پچھلی صدی میں پہلے سے زیادہ محسوس کی گئی کی جا رہی ہے اور انشاء اللہ ہمیشہ اسی بڑھتی ہوئی اشد ادی کیفیت کے ساتھ محسوس کی جائے گی کہ قدرت نے اب جن سامانوں کو پیدا کیا ہے ان کا یہ لازمی نتیجہ ہے۔

ختم نبوت:

اور شاید کہ اس ہستی مبارک کے اسی غیر منقطع ارتقائی تسلسل کا نتیجہ ہے کہ اس کے بعد نبوت کا یہ دعویٰ دوران کار ہے اس دعوے کا ہر مدعی قائلو اور زمین کی پشت کا بالکل غیر ضروری بار ٹھہرایا گیا ہے۔ چھٹی صدی کے بعد زمانہ کے ہر حصہ میں ٹھہرایا گیا دنیا کے ہر خطہ میں ٹھہرایا گیا۔ اور جن بد بختوں کے دل میں کبھی اس منصب کی جھوٹی ہوک اٹھتی ہے یا اٹھوائی جاتی ہے تم دیکھو! خلاف دستور بنی آدم کتنی بد سلوکیوں کے ساتھ آخر وقت تک اس کو در دراتے دھتکارتے رہے اٹھنے کو تو یہ اٹھ جاتے ہیں لیکن چند مغالطی پینتروں کے بعد ہی ان کو خود یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں کوئی کام نہیں۔ بنی آدم کی بستیوں میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے پھر یوں ہی بازاری بیروزگاروں کی طرح بالآخر سرگردانی کے ساتھ بھٹکتے بھٹکتے بہ ہزار حسرت و ناکامی نامرادی کے گڑھوں میں ہمیشہ کے لیے مدفون ہو گئے۔ تاریخ اس کی شاہد ہے کہ بوالہوسیوں کے پھساروں سے بے چین ہو ہو کر اگر کوئی نبوت کا نام لے کر

کبھی اٹھا بھی تو قدرت کے انہیں ہاتھوں نے جلتی گھانس کے خاکستر کے مانند اس کو وہیں بٹھا دیا۔ چودہ سو سال کا تجربی مشاہدہ اٹل ہے حالانکہ اس سے پہلے تاریخ کا کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ چار پانچ سو سال کے اندر کوئی نبی نہ آیا ہو اس کی ضرورت نہ پیدا ہوئی ہو۔

اگرچہ کھلے کھلے صاف غیر مبہم لفظوں میں بار بار اس کی منادی بھی کر دی گئی تھی اور نبوت و رسالت کے سلسلہ میں یہ پہلی منادی تھی کہ اب آسمان کا پیغام لے کر زمین والوں کے پاس کوئی نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ختم نبوت کی اس سنگین مہر سے جو بھی ٹکراتا ہے وہی پاش پاش ہو جاتا ہے اور قدرت کی چٹان پر سر مارنے کا یہ لازمی نتیجہ ہے۔

بالفرض اگر یہ اعلان نہ بھی ہوتا جب بھی آخر دنیا کیا کرتی! آنے والے تو ہمیشہ اس وقت آتے ہیں۔ ان میں آتے ہیں جب جانے والا جا ہی چکے لیکن ایسا آنے والا جو اس شان کے ساتھ آیا کہ بجائے جانے کے وہ آگے ہی بڑھتا رہا بڑھ رہا ہے گنجائش ہی کیا ہے کہ اس کی جگہ دوسرا آئے۔

جس طرح وہ بھیجا گیا، جن صفات و کمالات کے ساتھ بھیجا گیا۔ اسی شان اسی آن کے ساتھ چمکتے ہوئے آفتاب اور دکتے ہوئے سورج کے مانند ہم میں وہ اس طرح موجود ہے ہر جگہ موجود ہے ہر خطہ میں موجود ہے اس کا وجود مغرب میں بھی اسی طرح نمایاں ہے جس طرح مشرق میں وہ آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے شاہوں کے قصور اور غریبوں کے قلب ہائے دیبور دونوں کو روشنی بانٹ رہا ہے اور یکسانی کے ساتھ بانٹ رہا ہے وہ سب کے لیے برابر ہے سب کے لیے یکساں ہے وہ فضا میں بھری ہوئی ہوا ہے جس میں سب سانس لیتے ہیں اور وسعت کون و مکان کا وہ نور ہے جس میں سب چلتے ہیں پلتے ہیں پھولتے ہیں پھلتے ہیں یقیناً اس کی ضرورت جنتی چھٹی صدی کے باشندوں کو تھی اتنی ہی ضرورت اس وقت تک باقی ہے پھر جب تک پیاس ہے پانی چھلکے گا اور جب تک بھوک ہے روٹی معدوم نہ ہو گی آخر اس وقت کیا تھا جواب نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ دنیا اپنے خالق سے ٹوٹ کر اس زمانہ میں مخلوقات کے اندر غرق تھی لیکن کیا آدم کی اولاد تباہی کے اس گرداب سے نجات پا چکی؟

بلاشبہ جنہیں اس کی برکت میسر آئی ہے ان میں اکثروں کا ان کا جو مرتد یا منافق نہیں ہیں ان کا بیڑہ خطرہ سے انشاء اللہ نکل چکا ہے لیکن کون کہتا ہے کہ سب کا نکل چکا ہے؟

پھڑ پھڑا رہے ہیں ہندوستان کے ایک قطعی اراضی میں اتنے پھڑ پھڑا رہے ہیں کہ ان کا شمار صد ہزار سے نہیں بلکہ کروڑوں سے کیا جاتا ہے اور یہ تو صرف ہندوستان کا حال ہے اس ملک سے باہر بھی کیا کام پورا ہو گیا ہے۔

آباد جزیروں کے اس جنگل میں جہاں آفتاب لگتا ہے اور مشرق کا وہ گنجان خطہ جہاں بنی نوع انسان کی سب سے بڑی آبادی ہے، کیا جاپان و چین کے ان باشندوں کی اپنے مالک سے صلح ہو چکی ہے؟ یقیناً ایک گروہ وہاں بھی ایسا پیدا ہو چکا ہے جس نے مخلوقات کی بندگی کا جو گردنوں سے پھینک کر حقیقی اور سچی زندگی حاصل کی ہے، لیکن کون نہیں جانتا کہ ان ممالک کی اکثریت ابھی اسی طرح اپنے مالک سے روٹی ہوئی ہے جس طرح اس کے آباؤ اجداد روٹھے ہوئے ہیں۔

غریب مشرق تو پسماندگان کا ملک ہے لیکن جن کی پیش گامیوں کا ڈھنڈورا اس زور سے بیٹا جا رہا ہے، کیا یورپ کے ان باشندوں کی سمجھ سیدھی ہو چکی ہے "باپ بیٹے" کے قدیم افسانے کو تو چھوڑ لیکن جن خلقتوں کی ایجاد و تخلیق کی انہیں توفیق بخشی گئی۔ بجائے توفیق بخشنے والے کے خود اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ان مخلوقات کو اپنے دلوں میں نہیں بیٹھائے ہوئے ہیں؟ یقیناً ان کے قلوب ان کی جدید مخلوقات کی انتہائی عظمت سے اسی طرح لبریز ہیں جس طرح ان کے بزرگوں کے دل پرانی مخلوقات کے احترام سے معمور تھے۔

پہلوں کی عقل کو سورج کی شعاعوں، آگ کے شعلوں نے خیرہ کیا تھا، تو کیا پچھلوں کے سینوں میں برق کی قوتوں، اسٹیم کی طاقتوں، پٹرول کی توانائیوں نے چکا چونڈ نہیں لگائی ہے بزرگوں کے کارناموں، سورماؤں کی اولوالعزمیوں نے اگر پہلوں کو ان بزرگوں کے پتھر کی کھودی ہوئی صورتوں کے آگے جھکایا تھا، تو پچھلوں کے لیڈروں، زعمیوں، قائدوں کے کاموں نے ان کے اسٹیچو اور فوٹو کے ساتھ ان کی ساری قومی عزت و فلاح کو وابستہ نہیں کیا ہے۔

پرانوں کے دیوتاؤں کی گنتیوں کو سن کر تم قہقہے لگاتے ہو، ہنستے ہو، جب سنایا جاتا ہے کہ احمق ہندوستان خالق سے ٹوٹ کر چالیس کروڑ دیوتاؤں اور معبودوں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا مگر کوئی ہوتا، جو ان نت نئے دیوتاؤں کی فہرست بناتا، جن کے ساتھ فرزانہ و دانا یورپ کی روح

۱۰۲ (جاپان کے معنی "مطلع الشمس" کے ہیں جو لفظ توپوں کا ترجمہ ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے ۱۲)

اسی طرح خالق سے بیگانہ ہو کر ڈوبی ہوئی ہے آخر بتایا جائے ان دونوں نئے اور پرانے طبقہ میں کیا فرق ہے خالق سے یہ بھی دور وہ بھی دور مخلوقات کے بوجھ سے یہ بھی چور وہ بھی چور کچھ فرق اگر ہے تو صرف اس قدر ہے کہ پرانوں کے معبود بھی پرانے تھے اور عیبوں کے معبود بھی نئے ہیں پرانوں کو پرانے معبودوں میں عجائب و غرائب اور نئے نئے فوائد نظر آئے تھے اور عیبوں کو نئی مخلوقات میں عجائب و غرائب اور نئے نئے فوائد نظر آئے نظر آ رہے ہیں مظاہر احترام اور تعظیم کے بیرونی قالبوں کی خصوصیتوں سے اگر قطع نظر کر لیا جائے تو ناپ لیا جاسکتا ہے۔ اگر قلبی احساسات اور ذہنی کیفیات کے ناپنے کا کوئی آلہ ہوتا کہ پرانوں کے دلوں میں پرانے معبودوں کے متعلق جو کچھ تھا عیبوں کے قلوب میں نئے معبودوں کے متعلق وہی کچھ بلکہ شاید کہ اس سے زیادہ ہو۔

پرانے بھی تنہا خدا کے نام پر پھر جاتے تھے عیبوں کے سامنے جا کر آج خدا کو تنہا کیا بلکہ ان کے معبودوں کے ساتھ ملا کر بھی نام لو تو پھر دیکھو کہ ان کی پیشانی کی کھال کس طرح سکڑتی ہے اور منہ سے کتنے تو لے کف کے اڑاڑ کر بے چارے نام لینے والے کے چہرے پر پڑتے ہیں۔ تحریروں میں تقریروں میں تذکروں میں کیا عیبوں کا یہ گروہ اپنے معبودوں کے نام لیے بغیر کبھی گزر سکتا ہے برق کا بھاپ کا تار کا ریل کا سیاروں کا طیاروں کا فیکٹریوں کا ملوں کا بینکوں کا سرمایوں کا ان کی مختلف شکلوں مثلاً انشورنسوں ریسوں اور خدا جانے کن کن خداؤں کا نام آج جس دلچسپی کے ساتھ جس ذوق شوق کے ساتھ لیا جاتا ہے مشکل ہے کہ خالق کے پوجنے والے نے اتنے ذوق و شوق کے ساتھ بِسْمِ اللّٰهِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ذکر بھی کیا ہو یہ حمد بھی کرتے ہیں تو ان ہی خداؤں کی نعت بھی لکھتے ہیں تو ان ہی کی۔ پھر میں کیا غلط سمجھا۔ جب میں نے دیکھا کہ ”جو پرانے تھے وہی نئے ہیں“ چند مخلوقات کے گرد پالتیاں مارے وہ بھی بیٹھے تھے اور ٹھیک اسی طرح فطرت کے چند نوا میں قوانین کے تحت یہ بھی محور قص رامنش گری ہیں۔ وہ ان کا بھجن گاتے تھے۔ یہ ان کا شکر کرتے ہیں۔

أَتَوَصَّوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَآغُوتٌ.

تم کہتے ہو کہ پہلوں نے انسانیت کو ذلیل کیا جو سب سے اونچا تھا وہ سب سے نیچا اور اسفل سافلین کے درجہ پر پہنچایا گیا۔



بلاشبہ یہی ہوا یہی ہونا بھی چاہیے کہ خالق ایک ہے اور مخلوق لامحدود ہیں پس جس نے ایک کو چھوڑا اس کو ہر ایک سے جڑنا پڑے گا جو ایک سے نہیں ڈرے گا اس کو ہر ایک سے ڈرنا پڑے گا جو جھکنے ہی کے لیے ہے اس کو جھکنا ہی پڑے گا لیکن ایک کے آگے جھکا تو سب اس کے آگے جھکیں گے اور جس نے ایک کے آگے سر ٹیکنے سے انکار کیا دیکھو! وہ ہر ایک کے آگے سر ٹیکنے پر مجبور ہے ملائکہ کے آگے جن کے آگے انس کے آگے حیوانات کے آگے نباتات کے آگے جمادات اور میں کیا دکھاؤں کہ جو دیکھا نہیں جاسکتا اس کے آگے۔ ۱۰۳

یہی وہ عذاب ہے جو آخرت سے پہلے ان کو دنیا میں چکھنا پڑا چکھ رہے ہیں برضا و رغبت چکھ رہے ہیں۔

مگر کیا انسانیت کی یہ توہین صرف پہلوں میں تھی پر انوں نے خالق کے معبود ہونے سے انکار کیا بے شک اس کے صلہ میں انہیں بندروں کو معبود بنانا پڑا لیکن جن لوگوں نے اپنے تئیں خدا کی مخلوق ہونے میں شک کیا تھا آج بندر کے مولود ہونے کا اپنی زبان سے کیوں اقرار کر رہے ہیں۔ جس نے بندر کو معبود بنایا کیا شبہ ہے کہ اس نے انسانیت کو رسوا کیا لیکن جس نے خدا کی مخلوق ہونے سے انکار کر کے بندر کے مولود و مسعود ہونے پر فخر کیا کتابیں لکھیں دلائل قائم کیے قائم کر رہے ہیں کیا انسانیت کی خواری میں انہوں نے کوئی کمی کی ہے اور سچ تو یہ ہے کہ ہر چیز کی قیمت لگاتے ہوئے یکا یک چیخ اٹھتے ہیں کہ انسانیت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ سب انسان کے لیے ہیں لیکن انسان کسی کے لیے نہیں کسی مقصد کے لیے نہیں کیا؟ اس نے انسانیت کو ان غفونٹوں اور غلاظتوں سے بدتر نہیں ٹھہرایا؟ جن سے انسانوں کے کتنے مقاصد وابستہ ہیں جب انہوں نے کہا کہ انسان اپنے خدا اور خالق کے لیے نہیں ہے تو کیا اس کے بعد یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ انسان کسی کے لیے ہے بھی؟ پانی کا کیا بگڑے گا اگر آدمی نہ ہوں ہوا کیوں رک جائے گی اگر آدمی نہ ہوں آفتاب میں کیا داغ آئے گا اگر آدمی نہ ہوں حتیٰ کہ سڑک کے کسی سنگریزہ اور جنگل کے کسی تنکے کا کیا نقصان ہے اگر کوئی نہ ہو؟ تمہارے بڑے نہ ہوں چھوٹے نہ ہوں کوئی نہ ہو بے شک سب ان کے لیے ہیں لیکن مخلوقات کے اس طویل و عریض سلسلہ میں انسان کسی کے لیے نہیں اب اگر وہ خالق کے لیے بھی نہیں ہے تو اس سے زیادہ عبث و بے نتیجہ فضول و مہمل بے ہودہ ہستی اور کسی کی ہو سکتی ہے؟ اس رسوائی سے بڑی رسوائی اس ہتک سے بڑی ہتک اور کیا ہو سکتی ہے؟

عرب کے جہل نے کیا پیدا کیا تھا جو آج کے علم سے نہیں پیدا ہو رہا ہے جاہل شراب پیتے تھے مردار کھاتے تھے زنا کرتے تھے سو دھوڑتے جواری تھے ایک کا خون دوسرا پیتا تھا۔ اطلاق و افلاس کے اندیشہ سے لڑکوں کو لڑکیوں کو گور میں زندہ دفن کر دیتے تھے لیکن یہ قصہ کن کا سنایا جا رہا ہے کیا عرب کے جاہلوں کا یا یورپ کے عالموں کا وہاں کیا دکھاتے ہو جسے یہاں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے عرب سے باہر ایران میں ایک طرف مزدک زو زمین زن کو سب سے چھین کر سب کو دے رہا تھا اور دوسری طرف مانی اور اس کے شاگرد ہاتھوں میں استرے لیے پھرتے تھے کہ جس راہ سے یہ برائیاں آئی ہیں ان ہی کا قلع قمع کر دیا جائے۔ وہ انسانوں کو انسانوں میں آنے سے روکتے تھے۔ یہی ان کا فلسفہ تھا لیکن یہ تو ایران میں ہو رہا تھا آج یورپ کے ایک حصہ میں پھر وہی مزدک زندہ ہو کر بالشویک کے نام سے کیا وہی سب کچھ نہیں کر رہا ہے جو اس نے کیا تھا اور دوسری طرف برتھ کنٹرول کے نام سے اس طرح انسانوں کو انسانوں کی سوسائٹی میں شریک ہونے سے روکا جا رہا ہے۔

ایک راستوں کو ڈھاتا اور دوسرا بند کرتا ہے اس کے سوا اور کیا فرق ہے؟

صحیح ہے کہ ہندوستان میں بدھ مت کے فلسفہ نفس کشی نے بڑی گندی شکلیں اختیار کی تھیں دم مارگی پیدا ہوئے تھے مانگ و دیا اور دم مارگی تک پائے جاتے تھے۔ اگھوری ہونا آتما کی بڑی پاکی تھی لیکن آج گندیوں میں صفائی کے مدعی بن کر جوت پت ہیں اگھوروں کو بھی تے ہو اگر ان کا حال سنایا جائے بے پردگی و عریانی نے جنسی لذتوں کو جس حد تک بے جان کیا ہے اس میں جان ڈالنے کے لیے آج مغرب کا اگھوری جو کچھ کر رہا ہے واقعہ یہ ہے کہ اس کے سامنے مشرق کا اگھوری بھی شرمندہ ہے الحاصل جو کچھ اس وقت تھا جہاں تک سوچو گے تقریباً کسی نہ کسی شکل میں تم اس وقت بھی اس کو پاؤ گے پس آنے والا کیسے جاسکتا تھا جب تک کہ وہ سب نہ جائے جس کے لیے وہ آیا تھا بلکہ اس کی ضرورت تو اس کے بعد

۱۰۴ (کہا جاتا ہے کہ ایران کا فرقہ مانویہ تو والد و تاسل کے آلات ہی فنا کرنے کا وعظ کرتا تھا اور اس کا خیال تھا کہ یہی دنیا کی ساری شرارتوں کا سرچشمہ ہیں پس جو برائیوں کو روکنا چاہتا ہے چاہیے کہ وہ انسان ہی کو پیدا ہونے سے روکے ۱۲)

۱۰۵ (دیباوند نے ستیا رتھ پرکاش میں لکھا ہے کہ اس فرقہ کا عقیدہ یہ تھا کہ سب سے بڑی نیکی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے ۱۲)

۱۰۶ (تفصیل کے لیے دیکھو میرا مقالہ ”جاہلیت اولیٰ کا جاہلیت آخری سے موازنہ“ ۱۲)

بھی رہے گی کہ دنیا تو مسلسل محو تخریب ہے، لیکن کیا تعمیر بغیر معمار کے ممکن ہے اور یہی میرا مقصد تھا جب میں نے یہ کہتے ہوئے سب سے پہلے کہا تھا کہ یہی وہ آنے والا ہے جو آنے ہی کے لیے آیا پھر جس طرح آج وہ ہم میں موجود ہے، اس کی ضرورت موجود ہے، ان سب کو دیکھ کر اب بھی کوئی شک کر سکتا ہے کہ آنے کے بعد وہ نہیں گیا اور جب تک اس کی ضرورت ہے، نہیں جائے گا، تھا ہے رہے گا، ابد تک رہے گا اور اس کے لیے یہی مقدر ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ
عَلَى إِلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَلَى ذُرِّيَّتِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى
سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ
پس اے اخوان عزیز!

جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ مِثْلَهُ أَيْبُكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا
لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ
النَّصِيرُ. (سورة الحج آیت نمبر ۷۸)

کوشش کرو اللہ کی طرف بلائے کی کوشش کا پورا حق ادا کرتے ہوئے اسی نے
(اے امت اسلامیہ) تم کو چن لیا ہے اور تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں فرمائی۔ یہ
تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ اسی نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، پہلے بھی اور
اس میں بھی (کوشش کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رسول تمہارے نگران رہیں گے اور تم
دنیا کے نگران رہو گے، پھر لوگو! نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور زور سے پکڑو اللہ کو
وہی تمہارا آقا ہے پھر آقا ہے، کتنا اچھا مددگار۔

جب تک جانے کے لیے آنے والے آتے رہے، اشخاص چنے جاتے تھے، لیکن جب وہ
آیا جو آنے ہی کے لیے آیا تو اس کے طفیل میں اس کے ساتھ شخص نہیں بلکہ امت بنا ہی چنی
گئی۔ پہلے شخص مبعوث ہوتے تھے اب ایک امت ہی مبعوث ہے، یہی اس امت کا اصل

منصب“ اور ”فرض حقیقی“ ہے جب تک وہ اس منصب پر قائم رہیں گے اور انسانوں کی نگرانی کریں گے اس وقت تک ان کے رسول بھی اس امت کے نگران رہیں گے لیکن جب تم اپنے منصب سے ہٹے اگر رسول کی نگرانی کو نہیں محسوس کرتے تو کیا یہی وعدہ نہیں تھا؟

یہ امت مجتبیٰ و مبعوثہ ہر قوم میں ہے ہر ملک میں ہے پس جو جہاں ہے وہ وہیں مبعوث ہے اس کی قوم اس ملک کے باشندے ہیں مصیبت کی گھڑی وہی تھی جب اپنی قوم کو ہم نے اپنی قومیت سے نکالا اسی کے ساتھ ان کا درد بھی دل سے نکلا حالانکہ اگر حضرت نوح کی منکر ان کی قوم تھی حضرت ہود کے کافران کی قوم تھی قریش رسول خاتم النبیین کی قوم کے لوگ تھے تو کس نے کہا کہ ہندوستان کے ہندو ہندوستان کی قوم نہیں مصریوں کی قوم مصر کے قبط نہیں یورپ کے عیسائی یورپ میں رہنے والے ترکوں کی قوم نہیں پس جب تک۔

حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كَلِمَةً لِلَّهِ

نہ ہو تمہک کر بیٹھنے والے کے کیا معنی ہو سکے ہیں وثیقہ ہے کہ

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تا کہ سارے

دینوں پر وہ غالب ہو؟

اور دیکھو کہ لاندہ بیت پر مذہبیت غالب ہے چند پیشہ ور کتاب سازوں یا سبق فروش معلموں کو جانے دو جو وساوس بانی کی روٹی کھاتے ہیں عام فطرت انسانی پر مذہب کی گرفت اسی طرح سخت ہے جس طرح ہمیشہ سے تھی آخر اگر لاندہ بیت کا اسی قدر زور ہو گیا ہے تو جس یورپ کے متعلق یہ کہا سنا جاتا ہے وہاں کے باشندوں نے کیوں نہیں لاندہ بیت ہونے کا اعلان کیا ہے۔

سچ یہ ہے کہ انسانی دماغ کی جو ذہنی ساخت ہے اس میں اتنی تنگی یا پستی کس طرح پیدا ہو سکتی ہے کہ ماضی و مستقبل کے انجام کے فیصلہ کے بغیر اپنی زندگی گزارے؟ کہاں سے آیا

۱۰۷ (نبی کے پیغام اور زندگی کے ہوتے ہوئے اگر زیادہ سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو صرف یہی کہ لوگوں میں بد اعتقادی بے عملی پیدا ہو جائے تو کوئی پھر کتاب و سنت کی طرف ان کو پلٹا کر لے جائے اتنے کام کے لیے ”امت مبعوثہ“ اور اس کے مجددین کافی ہیں اور کافی ہوتے رہیں ہیں ۱۲)

ہوں کہاں جا رہا ہوں؟ کیوں آیا ہوں؟ جس چلنے والے کے سامنے ان سوالات کے جواب نہیں ہیں کیا وہ ایک قدم بھی آگے بڑھ سکتا ہے؟ بہر حال کم از کم اس وقت تک تو دنیا میں لاندہوں سے زیادہ بہت زیادہ ہی زیادہ تعداد مذہبی لوگوں کی ہے اور مذاہب میں ہر حیثیت سے جو وزن اسلام کو حاصل ہے کسی کو نہیں ہے۔ پس اسکا منطقی نتیجہ کیا یہی نہیں ہوا کہ لاندہیت پر مذہب غالب اور تمام مذاہب پر اسلام غالب ہے۔

جب مسلمان اپنی نگرانی دوسروں کے سپرد کر کے رسول علیہ السلام کی نگرانی سے اس وقت محروم ہیں اس زمانہ میں بھی اسلام کے غلبہ کا یہ حال ہے تو کیا حال ہوگا جب دنیا کے نگران بن کر پھر رسول کی نگرانی کی سعادت مسلمان حاصل کر لیں گے۔ کچھ نہیں، کوئی کام نہیں، جب تک اصل کام نہ ہوگا کسی کام میں کوئی برکت نہ ہوگی۔ بہت آرام لے چکے، تھکن مٹ چکی، کام بہت باقی ہے ہوتا کہ چونکنے والے چونکتے اور ”درا کی اس بانگ“ پر چل پڑتے ہیں۔

قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے
 دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے
 وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے
 نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے
 (اقبال)

تمت بالخیر

ضمیمہ نمبر 1

نقشہ متعلق ازواج مطہرات

نمبر شمار	اسمائے اہمات المؤمنین	سنہ نکاح	عمر ام المؤمنین بوقت نکاح	عمر نبیؐ بوقت نکاح	مدت سعادت بعیت
1	حضرت خدیجہ الکبریٰ	۲۵ میلاد قبل نبوت	۴۰ سال	۲۵ سال	تقریباً ۲۵ سال
2	حضرت سودہؓ	شوال سنہ ۱۰ نبوت	۵۰ سال	۵۰ سال	۱۳ سال
3	حضرت عائشہ صدیقہؓ (۱)	شوال سنہ ۱۱ نبوت	۶ سال	۵۲ سال	۹ سال
4	حضرت حفصہؓ	شعبان سنہ ۳ ہجری	۲۲ سال	۵۵ سال	۸ سال
5	زینب بنت خزیمہؓ	۳ ہجری	۳۰ سال	۵۵ سال	۳ ماہ
6	حضرت ام سلمہؓ	۴ ہجری	۲۳ سال	۵۶ سال	۷ سال
7	زینب بنت جحشؓ	۵ ہجری	۳۶ سال	۵۷ سال	۶ سال
8	حضرت جویریہؓ	شعبان سنہ ۵ ہجری	۲۰ سال	۵۷ سال	۶ سال
9	حضرت ام حبیبہؓ	۶ ہجری	۳۶ سال	۵۷ سال	۶ سال
10	حضرت صفیہؓ	جمادی الثانی ۷ ہجری	۱۷ سال	۵۹ سال	ساڑھے تین سال
11	حضرت میمونہؓ	ذی قعدہ سنہ ۷ ہجری	۳۶ سال	۵۹ سال	ڈیڑھ سال

ضمیمہ نمبر 2

عہد نبوی کے تمام شہدا، مقتولین، مجروحین اور اسیروں کی فہرست

تفصیل انام فریق	اسیر	زخمی	مقتول	جملہ
مسلمان	1	127	259	387
مخالف	6564	0	759	7323
میزان	6565	127	1018	7710

(افادہ) ہدم 17 اپریل 1919ء نے جنگ عظیم از 1914ء تا 1918ء کی تعداد مقتولین یہ طبع کی ہے۔ روس 17 لاکھ جرمنی 16 لاکھ فرانس 13 لاکھ 70 ہزار اٹلی 4 لاکھ 60 ہزار آسٹریا 8 لاکھ برطانیہ 7 لاکھ 6 ہزار ترکی 2 لاکھ 50 ہزار بلجیم 1 لاکھ 2 ہزار بلغاریہ رومانیہ سرویا و مانٹی نیکرو ایک ایک لاکھ (4 لاکھ) امریکہ 50 ہزار میزان 73 لاکھ 38 ہزار زخمی قیدی گم شدہ ان کے علاوہ ہیں۔ ہندوستان اور فرانس و برطانیہ کی نوآبادیات بھی خارج ہیں۔

1۔ 6000 قیدی صرف غزوہ حنین کے ہیں۔ 6564 سے 6347 جن کو بلا شرط آزاد کر دیا گیا۔ صرف دو قیدی گزشتہ جرائم کی پاداش میں قتل کیے گئے۔

مکتبہ انوار

بخش سٹریٹ (مچلی منڈی) اردو بازار لاہور فون: 7235951
CELL: 0333-4304659-0333-4298184